379

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ (روم:۲۲)

(بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے)

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے عظیم انسائیکلوپیڈیا

جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی کا موضوعاتی



اشاریہ

مرتبین

صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

امام ربانی فاؤنڈیشن، انٹرنیشنل کراچی،
اسلامی جمہوریہ پاکستان ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء

۶۳۴۲

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ (روم:۲۲)

(بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے)

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے عظیم انسائیکلوپیڈیا

جہانِ امامِ ربانی مجدد الف ثانی کا موضوعاتی

اشاریہ

مرتبہ

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی

امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل)، کراچی

(اسلامی جمہوریہ پاکستان)

۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء

حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

نام..........جہان امام ربانی کا موضوعاتی اشاریہ
مرتبہ..........ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری
صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی
اشاعت..........اول
طباعت..........۱۴۲۸ھ/ ۲۰۰۷ء
طابع..........جاوید اقبال مظہری
مطبع..........برکت پریس، کراچی
تعداد..........بارہ سو
ناشر..........امام ربانی فاؤنڈیشن (انٹرنیشنل)، کراچی
ہدیہ..........

84416

ملنے کے پتے

☆.....ادارۂ مسعودیہ.....۲/۶، ۵_ای، ناظم آباد، کراچی فون: ۰۲۱_۶۶۱۴۷۴۷
☆.....ضیاء الاسلام پبلی کیشنز.....ضیاء منزل (شوگن مینشن) محمد بن قاسم روڈ آف محمد علی جناح روڈ،
کراچی_فون: ۰۲۱_۲۲۱۳۹۷۳
☆.....ضیاء القرآن پبلی کیشنز.....اردو بازار، کراچی فون: ۰۲۱_۲۶۳۰۴۱۱
☆.....مکتبہ غوثیہ ہول سیل.....پرانی سبزی منڈی، یونیورسٹی روڈ، نزد پولیس چوکی محلّہ فرقان آباد،
کراچی_فون: ۰۲۱_۴۹۲۶۱۱۰
☆.....مکتبۂ نبویہ.....گنج بخش روڈ، لاہور
☆.....فرید بک اسٹال.....۳۸_اردو بازار، لاہور_فون: ۰۴۲_۷۲۲۴۸۹۹
☆.....مکتبہ جامعہ نقشبندیہ بستان العلوم.....کڈہالہ (مجاہد آباد)، براستہ گجرات، آزاد کشمیر، اسلامی
جمہوریہ پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدهٗ و نصلی علٰی رسوله الکریم

عجب رنگ پر ہے جہانِ مجدد

پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی

☆☆

عجب رنگ پر ہے جہانِ مجدد   فروغ قمر ہے جہانِ مجدد
یہ ہے شیخ احمد کی روشن کہانی   کمالِ بشر ہے جہانِ مجدد
ہر اک لفظ سے راز تحقیق ظاہر   عروجِ نظر ہے جہانِ مجدد
گمان و تشکک کی تاریکیوں میں   اذانِ سحر ہے جہانِ مجدد
نشانِ ہدایت، بیانِ عنایت   محبت اثر ہے جہانِ مجدد
یہ مسعودؔ ملت کا حسنِ تصور   یہ اقبالؔ گر ہے جہانِ مجدد
ہوے جس سے مسرور اہلِ طریقت   وہ تازہ خبر ہے جہانِ مجدد
مری منزلِ زندگی شہر طیبہ   مرا راہبر ہے جہانِ مجدد
چلے آؤ تشنہ لبو، غم کے مارو   ولایت کا گھر ہے جہانِ مجدد
غلامِ درِ مصطفیٰ کو مبارک
امیدوں کا در ہے جہانِ مجدد

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمدهٗ و نصلی علیٰ رسوله الكريم

(۱)

جہان امام ربانی
کا سرسری موضوعاتی جائزہ

(اقلیم اول تا یازدہم معہ نورٌ علیٰ نور)

☆☆

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

آئینہ نما

☆☆

- ......ابتدائیہ ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷
- ......موضوعاتی فہارس جہان امام ربانی ۱۳
  - اقلیم اول ۱۵
  - اقلیم دوم ۱۹
  - اقلیم سوم ۲۲
  - اقلیم چہارم ۲۵
  - اقلیم پنجم ۲۹
  - اقلیم ششم ۳۲
  - اقلیم ہفتم ۳۶
  - اقلیم ہشتم ۳۹
  - اقلیم نہم ۴۲
  - اقلیم دہم ۴۵
  - اقلیم یازدہم ۴۹
- ......آئینۂ جمال مقامات مقدسہ، مقابر و عمارات کے عکوس ۵۳
- ......آئینۂ مرقعات نورٌ علیٰ نور میں شامل مرقعات ۵۷

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

ابتدائیہ

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

☆☆

دسویں صدی ہجری کا نصف آخر اور گیارہویں صدی ہجری کا نصف اول مسلمانانِ ہند کے لیے نہایت کٹھن تھا...... اکبر بادشاہ اپنی سلطنت کے پہلے دور میں ایک مخلص مسلمان کی حیثیت سے سامنے آیا لیکن بعد کے ادوار میں علماء سو کی صحبت کی وجہ سے بگڑ گیا...... فتح پور سیکری میں ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی پادری، ہندوؤں اور عقل پرستوں کا عمل دخل بھی شروع ہو گیا پھر رفتہ رفتہ بات بگڑتی چلی گئی اور وہ کچھ ہوا کہ جس کے بیان سے زبان لڑکھڑاتی ہے......

ان ناگفتہ بہ حالات میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ الرحمۃ (م۔ ۱۰۳۴ھ/ ۱۶۲۴ء) نے اسلامی معاشرہ کی تجدید و اصلاح کا اہم فریضہ سرانجام دیا...... اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر بادشاہ کے عہد میں آپ کی تعلیمات اور افکار عالیہ نے معاشرے کو متاثر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک حسین انقلاب آ گیا......

تقریباً چار سو سال گزر جانے کے باوجود آج بھی آپ کی تعلیمات زندہ و پائندہ ہیں...... آپ کے افکار عالیہ نے پوری دنیائے اسلام کو متاثر کیا...... گزشتہ صدی میں

آپ کے حالات، افکار و دینی خدمات پر کام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے...... ہماری معلومات کے مطابق اب تک آپ کی شخصیت و افکار کے مختلف گوشوں پر پاکستان، ہندوستان، امریکہ اور ترکی وغیرہ سے بارہ محققین ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں اور کئی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ''مجلہ یادگار مجدد'' شمارہ ۲۰۰۲ء اور ''جہان امام ربانی'' کے ''افتتاحیہ'' اور ''اختتامیہ'' محررہ حضرت مسعود ملت ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں......

آج کا دور انتشار کا دور ہے، اس وقت اتحاد بین المسلمین کی اشد ضرورت ہے اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے سوا ماضی قریب و بعید میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو عالم اسلام کو متحد کر سکے...... اہل سنت کے تمام سلاسل اور دیگر مکاتب فکر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی ذات پر مجتمع نظر آتے ہیں اس لیے اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ کی شخصیت اور تعلیمات زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں، یہی شواہد دیکھتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے تقریباً اسّی سال قبل کہا تھا کہ ؎

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند
اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی

پھر حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حضور یہ دردمندانہ التجا بھی کی کہ ؎

تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ۔
تیرے پیمانے میں ہے ماہِ تمام اے ساقی

عصر حاضر میں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مولانا جاوید اقبال مظہری نے کراچی میں ۱۴۲۳ھ/ ۲۰۰۲ء میں امام ربانی فاؤنڈیشن قایم کی جس کے سرپرست اعلیٰ مجدد عصر مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی اور چیئرمین صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ہیں ان کے علاوہ دیگر احباب بھی شریک کار ہیں...... امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے ان فکری، علمی اور انقلابی نظریات و تعلیمات کو عالمی سطح پر احسن انداز

میں روشناس کرانا ہے جن کی بدولت خون کا ایک قطرہ بہے بغیر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔

امام ربانی فاؤنڈیشن نے ۲۰۰۲ء سے ۲۰۰۵ء تک تین سال مسلسل جدوجہد کر کے حضرت مسعود ملت کے زیر سایہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے حالات و خدمات اور مقامات پر تقریباً ایک سو ملکی و غیر ملکی علماء و فضلاء اور محققین کے علمی و تحقیقی مقالات کا عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا

‘‘جہان امام ربانی مجدد الف ثانی’’

کے نام سے سات جلدوں میں شائع کیا تھا جس میں چھے جلدیں مقالات پر مشتمل تھیں جبکہ ایک جلد ‘‘نورٌ علیٰ نور’’ کے نام سے مرقعات جہان امام ربانی مجدد الف ثانی پر مبنی تھی جس میں مرقعات کے تحت مقدس و تاریخی یادگار عمارات اور مقابر کی ۱۰۸ رنگین تصاویر آرٹ پیپر پر شائع کی گئی تھیں۔

۱۴۲۸ھ/ ۲۰۰۷ء میں مزید پانچ جلدیں (جلد ہفتم تا یازدہم) شائع کی گئی تھیں جبکہ ایک جلد ‘‘نورٌ علیٰ نور’’ کے نام سے مرقعات جہان امام ربانی پر مشتمل الگ ہے۔ اس طرح یہ عظیم انسائیکلوپیڈیا بارہ ضخیم جلدوں پر پھیلا ہوا ہے......

‘‘جہان امام ربانی’’ کی جلد یازدہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جلد میں شامل مقالات و مضامین کی اہمیت اپنی جگہ مگر ‘‘اشاریات’’ کی افادیت سے انکار ممکن نہیں...... اشاریہ کسی بھی دستاویز کے بارے میں بنیادی مأخذ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ مصنف و محقق کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم ہو جاتی ہیں اور اپنے موضوع سے متعلق معلومات ایک ہی جگہ بآسانی مل جاتی ہیں...... اس اہم کام کی طرف اردو میں انتہائی کم توجہ دی گئی، تاہم ہم نے اس کی افادیت اور آئندہ کام کرنے والے محققین کی آسانی کے لیے ‘‘جہان امام ربانی’’ کی اشاریہ سازی کی طرف بھرپور توجہ دی اور درج ذیل اشاریہ تیار کیے گئے۔

۱.....اشاریہ رجال

۲.....اشاریہ کتب

۳.....اشاریہ اماکن

اتنی بڑی کتاب کا اشاریہ مرتب کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مخلصین کی ایک جماعت نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا..... اس سلسلے کو مزید وسعت دیتے ہوئے برادرم صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی نے محققین کی آسانی کے لیے ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی کا موضوعاتی اشاریہ'' مرتب کیا جو کہ آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے......

''جہان امام ربانی'' کا یہ عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا اگر چہ بارہ جلدوں پر شائع ہو چکا ہے لیکن ماشاء اللہ دنیا بھر سے مقالات کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے لہٰذا جو مقالات تدوین کے بعد موصول ہوئے یا بعد میں آرہے ہیں، انھیں ''باقیات جہان امام ربانی'' کے نام سے دو جلدوں میں مرتب کیا جارہا ہے جو ان شاء اللہ ۲۰۰۸ء میں شائع ہو جائیں گی......

پیش نظر ''جہان امام ربانی کا سرسری موضوعاتی جائزہ'' میں ان شائع شدہ مجلدات اور مرقعات کی جامع فہرس مع صفحات نمبر پیش کی جارہی ہے تاکہ اہل علم وارباب طریقت اس عظیم منصوبے کی اہمیت اور موضوعات کی سرسری تفصیلات سے آگاہ ہوسکیں نیز محققین اپنے مطلوبہ مواد تک جلد اور صفحات نمبر کی مدد سے بروقت رسائی حاصل کرسکیں......

قارئین کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ ہم نے جلد کو ''اقلیم'' سے اور باب کو ''کشور'' سے تعبیر کیا ہے...... اس طرح ''جہان امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی بارہ اقالیم میں گیارہ تو مضامین ومقالات پر مشتمل ہیں جن میں ہر اقلیم پانچ کشوروں میں تقسیم کی گئی ہے جبکہ بارہویں جلد ''نورٌ علیٰ نور'' کے نام سے مرقعات کا حسین آئینہ

ہے...... اس ''جہان امام ربانی کا سرسری موضوعاتی جائزہ'' کے ساتھ ہی ''جہان امام ربانی کا موضوعاتی اشاریہ'' بھی پیش کیا جارہا ہے جسے برادرم صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی نے مرتب کیا ہے......

''جہان امام ربانی'' کی جامع موضوعاتی فہرس پیش کرنے سے پہلے عرض ہے کہ جو حضرات یا ادارے یہ عظیم کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی آسانی کے لیے پتے درج ذیل ہیں تاکہ شائقین آسانی سے یہ علمی و روحانی ذخیرہ حاصل کر سکیں......

جہان امام ربانی ملنے کے پتے

☆

☆......ادارۂ مسعودیہ......۶/۲، ۵-ای، ناظم آباد، کراچی فون: ۰۲۱-۶۶۱۴۷۴۷

☆......ضیاء الاسلام پبلی کیشنز......ضیاء منزل (شوگن مینشن) محمد بن قاسم روڈ آف محمد علی جناح روڈ، کراچی۔ فون: ۰۲۱-۲۲۱۳۹۷۳

☆......ضیاء القرآن پبلی کیشنز......اردو بازار، کراچی فون: ۰۲۱-۲۶۳۰۴۱۱

☆......مکتبہ غوثیہ ہول سیل......پرانی سبزی منڈی، یونیورسٹی روڈ، نزد پولیس چوکی محلّہ فرقان آباد، کراچی۔ فون: ۰۲۱-۴۹۲۶۱۱۰

☆......مکتبۂ نبویہ......گنج بخش روڈ، لاہور

☆......فرید بک اسٹال......۳۸-اردو بازار، لاہور۔ فون: ۰۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

☆......مکتبہ جامعہ نقشبندیہ بستان العلوم......کڈھالہ (مجاہد آباد)، براستہ گجرات، آزاد کشمیر، اسلامی جمہوریہ پاکستان

- ☆ Dr. Mufti Muhammad Mukarram Ahmad, Nusratul Islam Educational Society, Masjid Fatehpuri, Delhi-6,(INDIA)
- ☆ Mr. Masood Ahmad Ashrafi, Chairman, Global Islamic Mission,335, Walnut Street # 2, Yonkers, New York-10701(U.S.A)
- ☆ Mr. Munir Hussain Masoodi, 46-Holly Lane Smethwich, West Midlnds B67 7JD. (U.K)
- ☆ Mawlana Muhammad Qamaruddin Rizvi, Maktaba-i - Razvia 423-Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-110006. (INDIA)Ph. 23264524

امام ربانی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کراچی کی مساعی جمیلہ درحقیقت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مظہریہ کے روحانی فیض کا ثمر شیریں ہے جو کہ مجدد عصر حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کے ذریعے چار دانگ عالم میں جاری و ساری ہوا...... اللہ تعالیٰ "جہان امام ربانی مجدد الف ثانی" کے ذریعے ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)...... اس عظیم علمی منصوبے میں جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شخصیت اس سے بہت ہی بلند نظر آتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ؎

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے

ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ
مئی ۲۰۰۷ء

احقر
اقبال احمد اختر القادری
L-317/5-B-2، نارتھ کراچی، کراچی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

فہارس جہان امام ربانی

(اقلیم اول تا یازدہم)

☆☆

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ (روم: ۲۲)
بیشک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے،

جہانِ امامِ ربّانی

[illegible]

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیمِ اوّل

افتتاحیہ: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین
صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی
محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

⚙......تقدیم — صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد — ۴۱
⚙......ابتدائیہ — مولانا جاوید اقبال مظہری — ۵۹
⚙......افتتاحیہ — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد — ۶۹

کشورِ اوّل

⚙......اشعارِ مبارکہ — امام ربانی مجدد الف ثانی — ۱۱۹
⚙......حمد باری تعالیٰ — کیف بنارسی — ۱۲۰
⚙......نعت رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم — [illegible] محدث بریلوی — ۱۲۱
⚙......منقبت — عابد [illegible] عابد سہوانی — ۱۲۳
⚙......نذرانۂ عقیدت — خواجہ عبداللہ بن خواجہ باقی باللہ — ۱۲۵
⚙......رحمت کے دریچے — ۱۲۷
فوزِ عظیم — ۱۲۷
اخبارِ غیبیہ — ۱۲۸
نورِ عظیم الشان — ۱۲۹
مقامِ شفاعت — ۱۳۰
حدیثِ صلہ — ۱۳۱

تشکر و امتنان ۱۳۲
نوید محبوبیت ۱۳۳
✿ مثنوی شریف در شان مجدد الف ثانی خواجہ محمد ہاشم کشمی ۱۳۵
✿ آمد آمد سے پہلے ۱۴۰
القائے ربانی بہ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ ۱۴۰
شیخ احمد جام علیہ الرحمۃ ۱۴۰
شیخ خلیل اللہ بدخشی علیہ الرحمۃ ۱۴۱
شیخ عبداللہ قطب علیہ الرحمۃ ۱۴۱
شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ ۱۴۲
القائے ربانی بہ شیخ سلیم چشتی، شیخ نظام نارنولی
شیخ عبداللہ سہروردی ۱۴۲
تعبیر خوابات ارکان سلطنت اکبری ۱۴۳
✿ منقبت خواجہ محمد ہاشم کشمی ۱۴۴
✿ آمد آمد کے بعد ۱۴۵
شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۵
شیخ نورالحق علیہ الرحمۃ ۱۴۶
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۷
امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ ۱۴۷
مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمۃ ۱۴۸

کشورِ دوم

✿…… تصوف اور اس کی بنیاد صاحبزادہ محمد عمر بیربلوی ۱۵۱
✿…… روح اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۶۷

کشورِ سوم

✿…… قصیدہ در مدح خواجہای نقشبندیہ شیخ محمد شعیب ۲۰۱
✿…… قافلہ سالار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خلیفہ اول
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب زادہ محمد محب اللہ نوری ۲۰۴
✿…… حضرت خواجہ نقشبند اور طریقت نقشبندیہ پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد ۲۲۳
✿…… خواجگان نقشبندیہ اور تبلیغ اسلام پروفیسر عبدالحکیم مراد
مترجم ڈاکٹر علی سرفراز مسعودی ۲۵۸

کشورِ چہارم

✿…… خواجہ محمد عبدالباقی کابلی مولانا محمد صادق کابلی
(حیات، مناقب و کرامت) مترجم مولانا سید محمد دہلوی ۲۶۹
✿…… حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہٗ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ۲۹۳
✿…… حضرت خواجہ محمد باقی باللہ
(مختصر حالاتِ زندگی) شاہ ابوالحسن زید فاروقی ۳۱۶
✿…… حضرت خواجہ محمد باقی باللہ
(ایک تعارف) محمد عبدالمجید یزدانی ۳۲۵

مکتوبات شریف حضرت خواجہ محمد باقی باللہ بنام حضرت مجدد الف ثانی	حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ	۳۵۳
حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور	۳۶۵
مقام حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر سید محمد کبیر مظہر	۳۷۷

کشورِ پنجم

مرکز نور و تجلی ہے دیار سرہند	قاری غلام صابر قدیری سندیلوی	۳۸۹
شان سرہند بزبان مجدد سرہند	امام ربانی مجدد الف ثانی	۳۹۱
دیارِ سرہند	ڈاکٹر اقبال سرہندی	۳۹۲
اللہ والوں کی سرزمین	جمیل اطہر سرہندی	۳۹۳
سرہند شریف ایک نظر میں	صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین مجددی	۴۰۳
امام ربانی مجدد الف ثانی کے حالات زندگی	ڈاکٹر سراج احمد خاں	۴۰۵
امتیازات امام ربانی مجدد الف ثانی	علامہ محمد ذاکر اللہ نقشبندی	۴۳۵
حضرت مجدد الف ثانی لباس اور حلیہ شریف	محمد احسان مجددی سرہندی	۴۴۱
خانقاہ مجددی کا علمی ماحول	مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی	۴۴۲
نگارخانہ	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۴۵۵
مرقعات		۴۶۵

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علٰی رسولہ الکریم

اقلیم دوم

☆☆

✿...... نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۱
✿...... مناقب	سید فیض الحسن، شاہ عبدالغنی، ڈاکٹر محمد اقبال	۱۴
✿...... ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۱۹
✿...... تأثرات	نواب صدیق حسن خاں، ابوالحسن علی ندوی رشید احمد گنگوہی، شیخ محمد اکرام	۲۱

کشورِ اوّل

✿...... ماہ و سال (سیرت مجدد الف ثانی)	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہان پوری	۲۷
✿...... تخریجِ احادیث (مکتوباتِ مجدد الف ثانی، جلد سوم)	پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطلی	۳۲
✿...... حضرت مجدد کی فقہی خدمات	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	۱۸۳
✿...... حضرت شیخ احمد سرہندی کی عربی زبان وادب میں خدمات	ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی	۲۵۸

کشورِ دوم

- دعوت الی اللہ میں مجدد الف ثانی کا کارنامہ …… ڈاکٹر خالد علوی ۲۹۵
- سنت، حضرت مجدد کی نظر میں …… پیر عبداللطیف نقشبندی ۳۲۵
- بدعت کیا ہے؟ (بحوالہ خصوصی حضرت مجدد الف ثانی) …… پیر عبداللطیف نقشبندی ۳۲۹
- امام ربانی مجدد الف ثانی کا تصور بدعت …… پروفیسر حافظ سید مقصود علی ۳۵۷
- حضرت مجدد الف ثانی اور مسلک اہل سنت …… علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی ۳۷۵
- ذکر الٰہی کی اہمیت (حضرت مجدد کے مکتوبات کی روشنی میں) …… مولانا نورالحسن تنویر چشتی ۳۹۳
- حضرت مجدد الف ثانی کے معمولات …… سید زوار حسین شاہ ۴۰۷
- معمولات حضرت امام ربانی …… پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد ۴۲۵

کشورِ سوم

- امام ربانی اور علم لدنی …… شیخ الحدیث ابن الصدیق محمد ہادی بخش ۴۳۱
- جذب و سلوک …… شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ۴۵۲
- امام ربانی کی تعلیمات تصوف …… صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمٰن ۵۰۰
- عہدِ اکبری کے صوفیہ کی اصلاح میں مکتوبات امام ربانی کا کردار …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری مجددی ۵۱۰
- حضرت مجدد الف ثانی، تزکیہ نفس اور اخلاص …… پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی ۵۱۹
- صحو و سکر مکتوبات امام ربانی کے آئینے میں …… ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۵۳۵

امام ربانی اور علم النفسیات …… ڈاکٹر محمد اقبال مرتبہ: ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۵۵۳
امام ربانی اور علم الکائنات …… فضل احمد حبیبی ۵۵۸

کشورِ چہارم

امام ربانی کا لقب ''مجدد الف ثانی'' …… علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی ۶۱۷
''مجدد الف ثانی'' (ایک تحقیقی جائزہ) …… ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر ۶۳۳
امام ربانی کا نظریہ قیومیت اور لفظ ''قیوم'' پر امام احمد رضا کے فتوے کی فقیہانہ تحقیق …… مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری ۶۵۱
حضرت مجدد الف ثانی کا مرتبہ قیومیت …… مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی ۶۶۰
امام ربانی کا منصب قیومیت …… پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی ۶۷۲
امام ربانی مجدد الف ثانی کی شان قیومیت …… علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی ۶۹۰

کشورِ پنجم

امام ربانی……عرفان کے مجتہدِ اعظم …… پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ۷۱۵
حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الشہود …… ڈاکٹر سراج احمد خاں ۷۴۰
ابن عربی اور امام ربانی کے بعض نظریات (ایک تقابلی جائزہ) …… شاہ ابوالحسن زید فاروقی ۷۵۳
وحدۃ الوجود …… محدث اعظم علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی ۷۵۸
نگارخانہ …… ۷۶۳
مرقعات …… ۷۶۹

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

اقلیم سوم

☆☆

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۱
مناقب	قمر یزدانی، خواجہ احمد حسین، کلیم عثمانی اعزاز الدین، عبدالحکیم اختر	۱۳
ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۱۹
تأثرات	ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ڈاکٹر حفیظ ملک، ڈاکٹر زبید احمد ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی	۲۱

کشورِ اوّل

شیخ احمد سرہندی	ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ و سید نذیر نیازی	۲۵
مجدد نامہ	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	۳۵
مقاماتِ مجدد	مولانا محمد عبدالاحد	۱۱۱
مقام مجدد الف ثانی	ڈاکٹر محمد اختر چیمہ	۱۲۱
حضرت مجدد الف ثانی کا مقامِ تجدید	علامہ محمد جلال الدین قادری	۱۴۴
حضرت مجدد الف ثانی کے مقاماتِ روحانی کی چند جھلکیاں	ڈاکٹر الف۔ د۔ نسیم	۱۵۳

84416

✿ …… حضرت مجدد الف ثانی کی ملی و دینی خدمات پروفیسر محمد عارف اظہر ۱۷۶

کشورِ دوم

✿ …… نبوت و رسالت کا اثبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۱۹۹

✿ …… شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی و تجدیدی تحریک
کا مرکز و محور نبوتِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ڈاکٹر اے۔الف۔ایم۔ابوبکر صدیق
پر ایقان و ایمان مترجم، ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی ۲۳۷

✿ …… عقیدۂ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی پروفیسر سید شبیر حسین زاہد ۲۴۰

✿ …… وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر عبد الباری فرنگی محلی ۳۰۴

کشورِ سوم

✿ …… ردِ روافض حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۳۰۹

✿ …… حضرت مجدد الف ثانی اور تقلید ائمہ مجتہدین علامہ محمد جلال الدین قادری ۳۲۹

✿ …… امام ربانی اور رفع سبابہ علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری ۳۳۹

کشورِ چہارم

✿ …… مکتوب امام ربانی
در طریقِ ایصال ثواب و وسیلہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ۳۵۵

✿ …… بعض عقائد و معمولات اہل سنت
(مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں) پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۳۵۷

✿ …… عقائد و تعلیمات حضرت مجدد الف ثانی قاضی غلام محمد ہزاروی ۴۰۰

مسلکِ مجدد الف ثانی …… صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری ۴۱۲
نماز کا جائزہ (مکتوبات و معمولات امام ربانی کی روشنی میں) …… مولانا بدرالاسلام صدیقی ۴۳۰
حضرت مجدد الف ثانی کا طریقہ نماز …… مولانا بدرالاسلام صدیقی ۴۴۶
حضرت مجدد کا انداز تعلیم و تبلیغ اور اس کے اثرات و نتائج …… پروفیسر پیر نثار احمد جان سرہندی ۴۵۳

کشورِ پنجم

علم اور علماء حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں …… مفتی محمد علیم الدین نقشبندی ۴۶۳
حضرت مجدد الف ثانی کے تعلیمی افکار …… ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس ۵۰۷
چالیس ارشادات امام ربانی …… علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری ۵۱۳
حضرت مجدد کے اوراد …… مولانا بدرالاسلام صدیقی ۵۲۳
راہِ ہدایت …… صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۵۳۸
ملفوظات حضرت مجدد الف ثانی …… مولانا جاوید اقبال مظہری ۵۴۶
ملفوظات امام ربانی …… ابوالرضا مفتی منیر مجددی ۵۶۶
کرامات امام ربانی مجدد الف ثانی …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۵۷۲
نگار خانہ …… ۶۰۷
مرقعات …… ۶۱۱

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم چہارم

☆☆

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۳
مناقب	نظام الدین سرہندی، عبدالاحد وحدت خواجہ احمد حسین قمر یزدانی	۱۷
ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۵
تأثرات	حکیم محمد سعید، پروفیسر عزیز احمد پروفیسر خورشید حسین، پروفیسر محمد عارف اظہر پروفیسر محمد رضا خان، پروفیسر محمد اسلم	۲۷

کشورِ اوّل

آفتاب شرف	محمد ابوالشرف مجددی	۳۳
امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	۵۰
حضرت مجدد الف ثانی	کوثر نیازی	۵۸
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی	نواب محمد صدیق حسن خاں بھوپالی	۶۳
حضرت مجدد مطلع تاریخ پر	آباد شاہ پوری	۶۵
اکبر و جہانگیر اور مجدد الف ثانی	قاضی ظہور احمد اختر	۱۰۱

کشورِ دوم

برصغیر میں حق و باطل کے معرکے	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	۱۵۷
دو قومی نظریہ اور حضرت مجدد الف ثانی	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	۱۷۲
حضرت مجدد الف ثانی اور دو قومی نظریہ	پروفیسر محمد اسلم	۱۸۴
برصغیر میں دو قومی نظریہ کی بنیاد اور تحریک مجدد الف ثانی	سردار علی احمد خان قادری	۱۹۱

کشورِ سوم

خاندان مجدد کا زریں کردار	سردار علی احمد خان قادری	۲۸۵
شیخ احمد سرہندی، سلسلہ مجددیہ کا نقطۂ آغاز اور سلطنت مغلیہ پر اس کے اثرات	پروفیسر ڈاکٹر آرتھر بیولر سالم عبداللہ مترجم: ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی	۳۰۶
حضرت مجدد اور محمد علی جناح	محمد بخش مسلم	۳۱۴
سرمایۂ ملت کا نگہبان	ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	۳۱۵
حضرت مجدد دانشوروں کی نظر میں	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۳۲۰

کشورِ چہارم

حضرت مجدد الف ثانی کا سفر آخرت	خواجہ بدر الدین سرہندی مترجم: اعزاز الدین احمد	۳۳۹
اشک باری و دل فگاری	خواجہ محمد ہاشم کشمی	۳۵۲

تاریخہای وصال حضرت مجدد …… خواجہ محمد ہاشم کشمی ۳۵۳
حضرت مجدد کے سلسلہ عالیہ کے حضرات قدسیہ …… خواجہ بدرالدین سرہندی، مترجم: اعزازالدین احمد ۳۵۴
مشائخ نقشبندیہ مجددیہ …… مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی ۳۶۷
وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان …… پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی ۳۷۹
خواجہ محمد معصوم، مقاماتِ آدمیہ کی روشنی میں …… صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۳۸۷
خواجہ محمد معصوم اور اورنگ زیب عالمگیر کے تعلقات پر ایک نظر …… پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری ۳۹۲
مکتوبات معصومیہ، شاہ اورنگ زیب عالمگیر کے نام اور مکتوبات خواجہ محمد سیف الدین، شاہ اورنگ زیب عالمگیر، شہزادہ محمد معظم اور شہزادی روشن آراء کے نام …… پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۰۱
تذکرہ خلفائے مجدد الف ثانی …… مولانا نسیم احمد فریدی فاروقی ۴۷۱
حضرت مجدد اور علماء عصر …… ڈاکٹر سراج احمد خاں ۵۰۹
حضرت مجدد کے معاصر علما و مشائخ سے اختلاف کا تحقیقی جائزہ …… ڈاکٹر محمد انصار خاں نقشبندی ۵۵۰

کشورِ پنجم

سلسلۂ مجددیہ کے نامور شیخ مرزا مظہر جان جاناں …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۵۷۱
حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی …… علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری ۵۸۸

ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی ...... شاہ رؤف احمد مجددی ۶۰۵
مولانا شیخ خالد نقشبندی ...... ڈاکٹر بہیند خت معتمدی
مترجم: الحاج محمد یونس باڑی مظہری ۶۱۶
نگارخانہ ۶۲۳
مرقعات ۶۲۸

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم پنجم

☆☆

...... نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۱
...... مناقب	تاج الدین تاج، غلام مصطفیٰ مجددی	۱۴
...... ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۳
...... تأثرات	ابوالکلام آزاد، ابوالاعلیٰ مودودی محمد سعید احمد مجددی، شاہ حسین گردیزی داؤد غزنوی، عبداللہ روپڑی	۲۶

کشورِ اوّل

...... تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۳۱
...... تصانیف امام ربانی مجدد الف ثانی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ	پروفیسر خورشید حسین بخاری	۶۳
...... تکملہ، تصانیف امام ربانی کا تحقیقی جائزہ	محمد عالم مختار حق	۹۸
...... مکتوبات امام ربانی ...... ایک تحقیقی جائزہ	حکیم محمد موسیٰ امرتسری	۱۰۳
...... مکتوبات کی فہم و تفہیم میں حضرات مجددیہ کی کوششیں	پروفیسر محمد اقبال مجددی	۱۳۱

- …… مکتوبات امام ربانی کا عربی ترجمہ — عبدالحق انصاری ۱۴۵
- …… مکتوبات امام ربانی حضرت ضیاء المشائخ کی نظر میں — ضیاء المشائخ محمد ابراہیم مجددی ۱۷۷
- …… مقدمہ شرح مکتوبات امام ربانی — مولوی نصر اللہ ہوتکی ۱۸۷
- …… قاضی عالم الدین نقشبندی مجددیؒ (مکتوبات شریف کا ایک مترجم) — محمد عالم مختار حق ۱۹۵

کشورِ دوم

- …… زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کا تقابلی مطالعہ — پروفیسر سید خورشید حسین بخاری ۲۰۷
- …… سلسلۂ مجددیہ کا ایک ترک مصنف — ڈاکٹر امین وشیر ۲۲۹
- …… حضرت مجدد الف ثانی اور مارکسی مؤرخین — ڈاکٹر جمال محمد صدیقی ۲۳۹
- …… حضرت مجدد الف ثانی کے دفاع میں لکھی جانے والی کتابیں — پروفیسر محمد اقبال مجددی ۲۶۷
- …… حضرت مجدد کے اقوال پر مبنی دو تصانیف تعلیمات مجددیہ اور ارشاداتِ مجددیہ — وقار انبالوی ۲۹۱

کشورِ سوم

- …… حضرت مجدد مغرب میں — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۲۹۹
- …… افکارِ مجدد الف ثانی کا ایک ماٗخذ (امام شہاب الدین فضل اللہ تورپشتی) — پروفیسر محمد اقبال مجددی ۳۱۷

…… الاجابة الربانیه اور الاشارات السنیه (ایک تعارف) — ڈاکٹر شیخ ممتاز سدیدی — ۳۳۱

کشورِ چہارم

…… حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا — پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری — ۳۴۳

…… حضرت امام احمد رضا اور حضراتِ نقشبندیہ — صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد — ۳۷۰

…… امام ربانی اور امام اہلِ سنت — علامہ ڈاکٹر محمد مکرم احمد (مفتی اعظم دہلی) — ۳۸۷

…… حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد — ۳۹۴

…… فلسفۂ اقبال پر حضرت مجدد کے اثرات — ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی — ۴۱۹

…… تصانیفِ اقبال میں ذکرِ مجدد — ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی — ۴۹۱

کشورِ پنجم

…… امامِ اعظم، حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں — علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری — ۵۲۱

…… حضرت غوث اعظم، حضرت مجدد کی نظر میں — حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی — ۵۴۶

…… حضرت غوث اعظم اور حضرت مجدد الف ثانی — مرزا مظہر جان جاناں — ۵۵۰

…… حضرت غوث اعظم، شاہِ نقشبند اور حضرت مجدد — صوفی صدیق ضیاء انجینئر — ۵۵۶

…… حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت غوث الاعظم — مولانا محمد اقبال سعیدی — ۵۶۷

…… نگارخانہ — ۵۷۹

…… مرقعات — ۵۸۳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم ششم

☆☆

⚙ …… نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۳
⚙ …… مناقب	سید انیس احمد نقشبندی، غلام مصطفیٰ مجددی بشیر حسین ناظم، ابوالطاہر فدا حسین فدا	۱۵
⚙ …… ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۱
⚙ …… تأثرات	عبدالمجید سالک، جمیل اطہر سرہندی اکبر شاہ خان نجیب آبادی، سید انور علی ایڈووکیٹ انسائیکلوپیڈیا پاکستانیکا	۲۴

کشورِ اوّل

⚙ …… حضرت مجدد الف ثانی	شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۲۹
⚙ …… دنیائے عرب کے مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	عبدالحق انصاری	۳۴
⚙ …… عرب دنیا کے نقشبندی علماء و مشائخ	عبدالحق انصاری	۷۱
⚙ …… تیرھویں صدی کے عرب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	عبدالحق انصاری	۱۰۵

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں …… انابلے بوشر
حضراتِ نقشبندی …… مترجم: ڈاکٹر ثروت ندیم مسعودی
زیب النساء مسعودی ۱۲۲
حافظ عمر ضیاء الدین داغستانی …… مترجم: کمانڈر محمد ظفر مجددی ۱۳۷
شیخ محمد معصوم ضیائے نقشبندی …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۴۴
ترکی کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ …… مترجم: کمانڈر محمد ظفر ۱۵۰
کردستان میں سلسلہ خالدیہ مجددیہ …… فرہاد شکیلی
مترجم: ڈاکٹر صفی الدین صدیقی مسعودی ۱۵۵

کشورِ دوم

افغانستان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ …… جناب بوٹاس (Boutas)
مترجم: الحاج محمد یونس باڑی مظہری ۱۷۵
افغانستان کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ …… ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۸۸
شاہان کابل وافغانستان سرہند شریف میں …… صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین شاہ ۲۲۱
دہلی کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ …… مولانا جاوید اقبال مظہری ۲۲۳
مولانا غلام نقشبند گھوسوی (بھارت) …… فروغ احمد اعظمی مصباحی ۲۸۷
مولانا شاہ آل محی الدین ہادی نقشبندی …… اشرف خان ایم۔ اے ۲۸۹

کشورِ سوم

- …… سندھ کے اولیائے نقشبند — پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ۲۹۵
- …… سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ — تحریر: ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر
  ترتیب: صاحبزادہ محمد مسرور احمد ۳۲۹
- …… ضمیمہ، سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۵۶۲

کشورِ چہارم

- …… بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ — ڈاکٹر انعام الحق کوثر ۵۹۱
- …… ضمیمہ، بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۶۳۵
- …… پنجاب کی نقشبندی خانقاہوں پر ایک طائرانہ نظر — پیرزادہ اقبال احمد فاروقی ۶۴۲
- …… تکملہ، پنجاب کی نقشبندی خانقاہیں — محمد صادق قصوری ۶۵۹
- …… مولانا محمد حسین پسروری نقشبندی — محمد یونس ۶۸۱
- …… کشمیر کے چند مشائخ نقشبندیہ مجددیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۶۸۳

کشورِ پنجم

- …… سرحد کے بعض صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۰۷
- …… خانقاہ نقشبندیہ موسیٰ زئی شریف — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۷۹۳
- …… حضرت زندہ پیر گھمکول شریف — مولانا محمد رفیق مجاہد نقشبندی ۸۰۳

۞ …… نگار خانہ	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	
	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۸۰۹
۞ …… آئینۂ جمال	مرتبین	۸۱۴
۞ …… کتابیات	محمد عبدالستار طاہر مسعودی	
(مآخذ و مراجع)	سیدہ حنا مسعودی، سیدہ صبا مسعودی	۸۱۸
۞ …… مناجات	مولانا خالد کردی شامی نقشبندی	۸۵۸

صلی اللہ علیہ وسلم
۱۴۰۷ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم ہفتم

☆☆

۞……نعت شریف — امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۱
۞……مناقب — خواجہ احمد حسین مجددی، ڈاکٹر اقبال سربندیؒ، مولانا محمد حسن نوہانی، حمید صدیقی، فیض لدھیانی ۱۳
۞……ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۳
۞……تاثرات — جسٹس پیر کرم شاہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ڈاکٹر مفتی محمد مکرم، پیر سید عاشق حسین مجددی، محمد خالد مجددی، منیر حسین ۲۷

کشور اول

۞……خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ — ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ۳۰
۞……خواجہ بہاء الدین نقشبند — شیخ محمد شعیب ۴۹
۞……تصوف کی ضرورت واہمیت — علامہ رشید احمد مرتضائی ۵۳
۞……تبلیغ دین اور اشاعت تصوف میں خواجہ بہاء الدین نقشبند کا کردار — ڈاکٹر محمد شریف سیالوی ۶۹
۞……ارشادات شاہ نقشبند — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۷۹

کراماتِ شاہ نقشبند ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۱۰۱

کشور دوم

خواجہ محمد باقی نقشبندی اویسی ...... محمد صادق دہلوی کشمیری ہمدانی
مترجم: ڈاکٹر محمد سلیم اختر ۱۱۹
تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی ...... علامہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر ۱۸۳
امام ربانی اور فیضان کمالاتِ نبوت ...... ابوالسرور محمد مسرور احمد ۲۳۷

کشور سوم

تفسیر مظہری میں معارف و اذکارِ امام ربانی ...... علامہ مفتی محمد جان نعیمی ۲۵۱
افکار مجدد الف ثانی اور تفسیر روح المعانی ...... پروفیسر قاری محمد رفیق مسعودی ۲۷۷

کشور چہارم

تخریج احادیث در مکتوبات (فارسی) ...... ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی ۲۹۷
تخریج احادیث مکتوبات امام ربانی ...... ابوکلیم محمد صدیق فانی ۳۳۹
حضرت مجدد اور تحفظ ناموسِ رسالت ...... ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی ۴۳۱
حضرت مجدد اور عشقِ رسول (ﷺ) ...... ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ۴۳۵

کشور پنجم

- ......حضرت مجدد اور ترویج شریعت — پروفیسر محمد احسان قادری ۴۴۳
- ......شریعت، طریقت، حقیقت حضرت مجدد کی نظر میں — پروفیسر قاری مشتاق احمد نقشبندی ۴۵۳
- ......امام ربانی اور تنفیذ شریعت — علامہ ذاکر اللہ افغانی ۴۶۹
- ......مرقعات ۴۹۱
- ......مختصر تعارف اقلیم ہشتم

☆......☆......☆



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم ہشتم

☆☆

......نعت شریف	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۱
......مناقب	خواجہ عبداللہ ابن خواجہ باقی باللہ	
	محمد جان العمری، محمد سلیم جان مجددی	۱۳
......ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۱۹
......تاثرات	ابو حفص عمر مجددی، علامہ مفتی علیم الدین نقشبندی،	
	ڈاکٹر محمد اسحاق ابرو، سید ذوالفقار شاہ	۲۳

کشور اول

......امام ربانی مجدد الف ثانی	محمد صادق قصوری	۲۹
......حضرت مجدد بحیثیت فقیہ اسلام	علامہ محمد صدیق ہزاروی	۱۳۹
......مسئلہ اشارہ سبابہ	مولوی سید احمد علی نقشبندی	۱۴۷
......حضرت مجدد پر اعتراضات اور جوابات	ابو الرضا مفتی محمد نیر مجددی	۱۶۹

کشور دوم

......قطعات تاریخ طبع مکتوبات امام ربانی	عبداللہ نقشبندی مجددی	۱۷۷
......تاریخ مکتوبات امام ربانی	ابو السرور محمد مسرور احمد	۱۷۹

- ……جواہر مکتوبات مقدسہ — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۹۷
- ……نرمی و آسانی (مکتوب امام ربانی کی روشنی میں) — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۲۸۵
- ……مسلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی — علامہ عبدالحکیم شرف قادری ۳۰۹
- ……احمد بن عبدالاحد کے نزدیک عقائد اہل سنت — ڈاکٹر محمود احمد غازی، مترجم: پروفیسر عبدالرسول ۳۳۱

کشور سوم

- ……امام ربانی کا سلسلہ نسب — سید زوار حسین شاہ ۳۵۷
- ……حضرت مجدد کا شجرہ طریقت قادریہ صابریہ — مرزا غلام جیلانی پشاوری ۳۶۱
- ……حضرت مجدد کے سلسلہ ہائے طریقت — سید محمد عبداللہ قادری ۳۶۳
- ……حضرت مجدد کے اربعہ سلاسل طریقت — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۳۷۳
- ……مشائخ نقشبندیہ (ماہ و سال کے آئینہ میں) — محمد یوسف مجددی ۳۸۵

کشور چہارم

- ……شیخ احمد سرہندی اور مستشرقین — ڈاکٹر محمد سلطان شاہ ۳۹۳
- ……عہد حاضر اور حضرت مجدد الف ثانی (کام کی رفتار کا سرسری جائزہ) — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۲۱
- ……دور حاضر میں درپیش چیلنجز اور ان کا مقابلہ (حضرت مجدد کی دعوت حق اور طرز تبلیغ و ارشاد کی روشنی میں) — پروفیسر محمد عامر بیگ ۴۳۱

حضرت مجدد اور ذرائع ابلاغ …… صوفی غلام سرور نقشبندی ۴۴۳

کشور پنجم

حضرت مجدد کا کارنامہ
(علماء سوء کے کردار و عمل کے حوالے سے) …… صاحبزادہ محمد عبد السلام ۴۴۹
طالبان علم کے لیے مینارۂ نور …… صاحبزادہ محمد بدر الاسلام صدیقی ۴۵۹
حضرت مجدد کا حسن ادب …… پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۴۷۱
مجدد الف ثانی کا پیغام …… مفتی علی احمد سندیلوی ۴۷۷
مرقعات …… ۴۹۳
مختصر تعارف اقلیم نہم

☆……☆……☆



مختص اللہ الراشد العدل والجود

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم نہم

☆☆

۞......نعت شریف — امام احمد رضا محدث بریلوی — ۱۱

۞......مناقب — نظام الدین سرہندی، اختر شاہجہانپوری، عبدالحفیظ کاردار — ۱۳

۞......ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۱۹

۞......تاثرات — علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ یٰسین اختر مصباحی، مولانا شیر محمد خان رضوی، حاجی معراج الدین — ۲۳

کشورِ اوّل

۞......شیخ احمد سرہندی (سوانحی خاکہ) — ڈاکٹر ظفر الاسلام — ۲۹

۞......احمد سرہندی مجدد الف الثانی — دکتور جمال الدین الشیال — ۳۷

اردو ترجمہ: ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد — ۵۱

۞......الجنات الثمانیہ (سوانح مجدد الف ثانی پر نادر عربی مخطوطہ) — پروفیسر عبدالباری — ۵۹

۞......حضرت مجدد لاہور میں — پروفیسر محمد اقبال مجددی — ۶۵

۞......لاہور سے امام ربانی کی نسبت — ابوالسرور محمد مسرور احمد — ۷۳

کشورِ دوم

......فکرِ مجدد الف ثانی میں خلفاء راشدین کا مقام و مرتبہ — محمد یٰسین مظہر صدیقی — ۸۱
......شیخ احمد سرہندی اور اہلِ حکومت میں شریعت کی ترویج — ڈاکٹر ظفر الاسلام — ۹۷
......شیخ احمد سرہندی اصلاحی و تجدیدی خدمات کی روشنی میں — محمد شمیم اختر قاسمی — ۱۲۹

کشورِ سوم

......مجدد الف ثانی کی عربی نگارشات اور کارِ تجدید میں ان کی اہمیت — جمشید احمد ندوی — ۱۷۵
......مجدد الف ثانی کی علم پروری اور علماء نوازی — صاحبزادہ بدر الاسلام صدیقی — ۱۹۳
......امام احمد رضا پر حضرت مجدد کے اثرات — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی — ۲۰۷
......خدمتِ خلق اور صوفیائے نقشبند — ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس — ۲۱۷

کشورِ چہارم

......حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے ناقدین — شاہ ابوالحسن زید فاروقی — ۲۳۳
......شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبدالحق دہلوی — خلیق احمد نظامی — ۴۳۳

۞......شیخ عبدالحق دہلوی کے ایک معاصر، مجدد الف ثانی — ڈاکٹر علیم اشرف خاں — ۴۷۱

کشورِ پنجم

۞......خاندان مجددیہ اور فارسی ادب — ڈاکٹر ادریس احمد — ۴۷۵
۞......خاندان مجددیہ سے قائداعظم کے اجداد کی عقیدت — سید صابر حسین شاہ قادری — ۵۷۴
۞......نگار خانہ — ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی — ۵۸۷
۞......مختصر تعارف جہان امام ربانی اقلیم دہم — ۵۹۰

☆......☆......☆

الحسد یأکل الحسنات
کما تأکل النار الحطب

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم دہم

☆☆

نعت شریف ...... امام احمد رضا محدث بریلوی ۱۳
مناقب ...... عابد حسین سہسوانی، قمر یزدانی
پروفیسر محمد حسین آسی، خالد محمود ۱۹
ابتدائیہ ...... ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹
تاثرات ...... مفتی محمد مکرم احمد، مفتی محمد جان نعیمی،
ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، پروفیسر قاری محمد رفیق ۳۵

کشورِ اول

شیخ احمد سرہندی ...... پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۴۱
مفکر اسلام شیخ احمد سرہندی ...... پروفیسر محمد وکیل احمد ۴۹
شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی ...... ڈاکٹر ابو اعجاز رستم ۹۱
مقام مجدد الف ثانی ...... ابو السرور محمد مسرور احمد ۱۰۵

کشورِ دوم

شیخ احمد سرہندی کی تحریک احیائے دین ...... پروفیسر محمد اقبال مجددی ۱۱۵

- ……اعلیٰ عربی زبان وادب کی مثال مکتوبات امام ربانی — اورنگ زیب اعظمی ۱۲۵
- ……مکتوبات خواجہ ہاشم کشمی بنام حضرت مجدد الف ثانی (فارسی، قلمی) — خواجہ محمد ہاشم کشمی ۱۳۹
- ……خواجہ محمد معصوم حرمین شریفین میں — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۷۱
- ……شاہجہاں واورنگ زیب کے مرشد کریم — ڈاکٹر محمد ادریس ۱۸۱

کشورِ سوم

- ……نقشبندیہ سلسلہ تصوف — محمد حنیف رائے ۱۹۳
- ……قادری شہرت پانے والے مشائخ نقشبندیہ — محمد صادق قصوری ۲۱۷
- ……ارشادات سید امام علی شاہ مکان شریف — سید شعیب افتخار مسعودی ۲۲۹
- ……مرزا مظہر جان جاناں، تصوف، ادیان ومذاہب کے درمیان وسیلہ — ڈاکٹر محمد تعظیم ۲۳۷
- ……ملفوظات مرزا مظہر جان جاناں — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۵۱

کشورِ چہارم

- ……شاہ امان اللہ نقشبندی افغانی — مولانا عبدالباقی نقشبندی ۲۶۳
- ……خواجہ فیض محمد شاہ قندھاری — پروفیسر غلام سرور رانا ۲۶۷
- ……تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ (سرحد) — راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی ۲۷۹
- ……خواجہ غلام حسن نقشبندی (سواگ شریف) — محبوب احمد بھٹی نقشبندی ۳۱۳

- خواجہ غلام قاسم کبوہ نقشبندی …… قاری محمد شریف کبوہ ۳۱۹
- خواجہ رکن الدین صدیقی نقشبندی …… کوکب زمان ۳۲۵
- شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی
(خطہ، پوٹھوہار میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی اولین کرن) …… راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی ۳۲۹
- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پوٹھوہار …… راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی ۳۴۳
- بلوچستان میں نقشبندی خانقاہیں …… ڈاکٹر سلطان الطاف علی ۳۶۵
- علامہ محمد نور بخش توکلی …… صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی ۳۷۷
- مولانا سید حبیب اللہ نقشبندی توکلی …… پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر ۳۸۵
- مولانا سید محمد یوسف نقشبندی …… پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر ۳۹۳
- حافظ محمد رانجھا نقشبندی مجددی …… شاہد احمد خان مسعودی ۳۹۹
- چند ممتاز مشائخ نقشبندیہ
(خواجہ محمد نامدار، صوفی محمد علی، خواجہ سید امین) …… ابوالبیان علامہ محمد سعید احمد مجددی ۴۱۱
- خواجہ محمد سعید نقشبندی المعروف پیر مٹھا …… محبوب احمد بھٹی نقشبندی ۴۳۳
- مولانا غلام محی الدین قصوری …… پیرزادہ اقبال احمد فاروقی ۴۴۹
- خواجہ محمد فضل علی مجددی …… محبوب احمد بھٹی نقشبندی ۴۵۹
- خواجہ محمد عبدالغفار فضلی نقشبندی …… محبوب احمد بھٹی نقشبندی ۴۷۵
- علامہ سید حبیب احمد حبیب نقشبندی …… پروفیسر شاہ انجم بخاری ۴۸۷
- حضرت کرماں والے …… ملک بشیر احمد ۴۹۱
- پروفیسر محمد حسین آسی …… پروفیسر غلام مصطفی مجددی ۴۹۵

✿......سلسلہ نقشبندیہ کے مخطوطات کی اشاعت میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی خدمات — ڈاکٹر مسرور احمد زئی — ۵۱۵

کشورِ پنجم

✿......مرقعات علمی — ابوالسرور محمد مسرور احمد — ۵۵۳

- ☆......اکابر مشائخ نقشبندیہ — ۵۵۵
- ☆......اکابر مجددیہ — ۵۶۹
- ☆......حضرت مجدد الف ثانی کی تصانیف — ۵۷۷
- ☆......حضرت مجدد الف ثانی پر تصانیف — ۶۵۷
- ☆......صاحبزادگان، خلفاء و دیگر مشائخ کی تصانیف — ۷۷۱
- ☆......دیگر تصانیف — ۷۹۳

✿......مرقع جرائد نقشبندیہ — ملک محمد سعید مجاہد آبادی — ۸۴۳

✿......نقشبندیہ مآخذ و مراجع (Naqshbandia Bibliography) — ویکا گارڈنر (Vika Gardner) — ۸۶۳

✿......نگار خانہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۹۰۵

✿......مختصر تعارف اقلیم یازدہم — ۹۰۷

☆......☆......☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

اقلیم یازدہم

☆☆

نعت شریف	امام احمد رضا محدث بریلوی	۱۳
مناقب	ابوالبیان پسروری، سید یونس جمشید پوری، طارق سلطانپوری، محمد حفیظ نقشبندی، سید شبیر حسین شاہ	۱۷
ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	۲۹
تاثرات	ڈاکٹر سید محمد عارف، ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی، عبدالحی لکھنوی، محمد عظیم نقشبندی	۳۷

کشورِ اول

تجلیات امام ربانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۴۵
امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی	ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی	۶۵
شیخ احمد سرہندی	پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی مترجم: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی	۹۹
ایک مردِ حق آگاہ	ڈاکٹر عبدالوارث خاں	۱۰۹
شجرۂ مصافحہ		۱۳۲
حقیقتِ محمدیہ، حقیقتِ احمدیہ اور حقیقتِ کعبہ مکتوبات کی روشنی میں	صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر	۱۳۳
علم الکلام میں حضرت مجدد کے اجتہادات	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	۱۵۱

۞ ......مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے
سلاطین کی ارادت وعقیدت — صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد ۲۰۱
۞ ......مکتوب خواجہ محمد سعید بنام والیِ یمن امام اسماعیل — خواجہ محمد سعید ۲۰۵
۞ ......شیخ محمد ناظم عادل قبرصی — مرتبین ۲۱۹
۞ ......مولانا نورالدین نورانی نقشبندی — پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی ۲۲۷
۞ ......توضیحات — پروفیسر سید کبیر احمد مظہر ۲۳۷

کشورِ دوم

۞ ......محفل تشکر بسلسلہ اجراء جہان امام ربانی، کراچی
(یکم ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۱۰/اپریل ۲۰۰۵ء) ۲۶۹
☆ ......ابتدائیہ — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۷۰
☆ ......تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن — مولانا جاوید اقبال مظہری ۲۷۱
☆ ......خطبہ صدارت — ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۲۷۶
☆ ......روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۸۴
۞ ......قومی جہان امام ربانی کانفرنس، لاہور
(۱۴/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ/۲۴/اپریل ۲۰۰۵ء) ۲۹۱
☆ ......خطبہ صدارت — ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد ۲۹۳
☆ ......روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۲۹۸
☆ ......اظہار خیال — پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد ۳۰۶
۞ ......حضرت مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس، دہلی
(۳۱/مارچ ۲۰۰۶ء) ۳۰۹
☆ ......روئداد — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ۳۱۱

کشورِ سوم

۞ ......آئینۂ مجدد — شہزاد احمد مسعودی — ۳۱۹

۞ ......مآخذ و مراجع جہان امام ربانی (اردو، عربی، فارسی، انگریزی) — صوفی محمد عبدالستار طاہر، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، صبا مسعودی، حنا مسعودی — ۳۲۷

کشورِ چہارم

۞ ......اشاریۂ رجال جہان امام ربانی — مولانا شجاع الرحمٰن، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، پروفیسر سید مقصود علی، مولانا نصیر احمد، مولوی غلام جیلانی، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ، حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ شاہد، سمیعہ شاہد — ۳۹۱

۞ ......اشاریۂ کتب جہان امام ربانی — پروفیسر قاری محمد رفیق، صوفی عبدالستار طاہر مسعودی، سید زبیر حسین جیلانی، حاجی امجد افضل، حاجی محمود، محمد شریف اعوان، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، مولانا احمد صادق، مولانا غلام نبی، مدثر چوہدری، محمد عثمان، حافظ محمد سعید، حافظ محمد انس، محمد سجاد، محمد اشفاق، اسامہ امجد، حافظ شرافت، محمد عاطف، عامر اسلم، محمد عامر، محمد ہارون، حافظ بلال ساجد، بشریٰ، صبا مسعودی، حنا مسعودی — ۶۱۷

۞ ......اشاریۂ اماکن جہان امام ربانی — محمد عاصم مسعودی، محمد سہیل، ثروت، صبا مسعودی، حنا مسعودی، سمیعہ شاہد، ربیعہ شاہد، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ — ۷۲۳

کشورِ پنجم

- ...... جہانِ امامِ ربانی (منظوم) — پروفیسر محمد حسین آسی — ۷۷۵
- ...... جامِ جم (جہانِ تبریک و تشکر) — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۷۷۷
- ...... فہارس جہانِ امامِ ربانی (اقلیم اول تا یازدہم) — ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری — ۸۶۳
- ...... اختتامیہ — پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد — ۹۰۳
- ...... آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی (منظوم) — پروفیسر محمد حسین آسی — ۹۲۴
- ...... مرقعاتِ کتب — حکیم عبدالحی لکھنوی و ابوالحسن علی ندوی — ۹۲۹
- ...... مرقعات — ۹۵۱
- ...... مناجات — شیخ خالد کردی، مولوی وکیل احمد سکندرپوری — ۹۷۹

☆......☆......☆

تنہا غنی نہ نغمۂ مدح تو ساز کرد
کرّوبیاں عرش ہمیں گونہ گفتہ اند
(شاہ عبدالغنی)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

آئینۂ جمال

مقاماتِ مقدسہ، مقابر وعمارات کی فلموں کی فہرس

☆☆

- ...... مسجد حرام، بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ
- ...... مسجد نبوی شریف، مدینہ منورہ
- ...... مسجد نبوی شریف کا اندرونی منظر، مدینہ منورہ
- ...... فضائی منظر، مدینہ منورہ
- ...... مسجد نبوی شریف اور گنبد خضرا، مدینہ منورہ
- ...... مزار مبارک ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ
- ...... مزارات خواجگان نقشبند علیہم الرحمۃ
- ...... مزار حضرت بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ
- ...... جامع بہاء الدین نقشبند کا مرکزی دروازہ، قصر عارفان، بخارا
- ...... جامع بہاء الدین نقشبند، قصر عارفان، بخارا
- ...... مقبرہ خواجہ بہاء الدین نقشبند (۷۹۱ھ/۱۳۸۹ء) قصر عارفان، بخارا
- ...... مقبرہ خواجہ بہاء الدین نقشبند اور جامع بہاء الدین نقشبند، قصر عارفان، بخارا
- ...... جامع خواجہ بہاء الدین نقشبند کا اندرونی منظر، قصر عارفان، بخارا
- ...... جامع خواجہ بہاء الدین نقشبند کا اندرونی منظر قصر عارفان، بخارا

- ......مزار خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ، دہلی
- ......امرتسر روڈ......سرہند شریف کے قریب سنگ میل
- ......شہر سرہند
- ......صدر دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ، سرہند شریف
- ......روضۂ مبارک، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرہند شریف
- ......روضہ شریف، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور مسجد شریف کا بیرونی منظر، سرہند شریف
- ......روضہ شریف، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی نو تعمیر شدہ عمارت، سرہند شریف
- ......مسجد شریف، روضہ شریف، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......قبر شریف امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ......خانقاہ عالیہ مجددیہ، سرہند شریف
- ......خانقاہ عالیہ مجددیہ کے حجرے، سرہند شریف
- ......مرکزی دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ، سرہند شریف
- ......قلعہ گوالیار
- ......قلعہ گوالیار
- ......قلعہ گوالیار
- ......قومی عجائب گھر، لاہور
- ......دروازہ، قلعہ لاہور
- ......شیش محل، قلعہ لاہور
- ......مزار مبارک، خواجہ محمد صادق و خواجہ محمد سعید (فرزندان گرامی)، صاحبزادی ام کلثوم حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......روضہ شریف، حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مزار مبارک، خواجہ محمد معصوم و فرزندان گرامی علیہم الرحمۃ، سرہند شریف

- ......مزار مبارک، خواجہ محمد معصوم وفرزندان گرامی علیہم الرحمۃ
- ......مقبرہ شریف، خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مرکزی دروازہ مقبرہ شریف، خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......قبر انور، خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......قبر انور، خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مزار پرانوار سید نور محمد بدایوانی علیہ الرحمۃ، دہلی
- ......مزار پرانوار، سید نور محمد بدایوانی علیہ الرحمۃ، دہلی
- ......مقبرہ شریف، خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مزار پرانوار، خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مزار مبارک، خواجہ سیف الدین نبیرہ حضرت مجدد الف ثانی، سرہند شریف
- ......روضہ شریف، خواجہ محمد صدیق نبیرہ حضرت مجدد الف ثانی علیہما الرحمۃ، سرہند شریف
- ......مزار شاہانِ افغانستان (احاطہ روضہ شریف)، سرہند شریف
- ......شاہانِ افغانستان کے مزارات (احاطہ روضہ شریف)، سرہیند شریف
- ......جامع مسجد عالم گیری، لاہور
- ......مقبرہ، اورنگ زیب عالمگیر، اورنگ آباد
- ......مقبرہ، ملکۂ اورنگ زیب رابعہ دورانی، (تاج محل ثانی) اورنگ آباد، مہاراشٹر (بھارت)
- ......مسجد شریف، خانقاہ مظہریہ، دہلی
- ......خانقاہ مظہریہ، دہلی
- ......خانقاہ مظہریہ، دہلی
- ......مزارات، مرزا مظہر جانِ جاناں، شاہ غلام علی، شاہ ابوسعید، شاہ ابوالخیر علیہم الرحمۃ
- ......مزار مبارک، مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمۃ
- ......درگاہ، حضرت شاہ ابوالخیر (خانقاہ مظہریہ)، دہلی

- ......درگاہ، حضرت شاہ ابوالخیر (خانقاہ مظہریہ)، دہلی
- ......روضہ شریف، شیخ خالد کردی نقشبندی، دمشق۔ شام
- ......مزار شریف، حضرت شاہ ابو اسعد سالم مجددی، کوئٹہ
- ......دمشق کے محلہ صارو جا میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ مرادیہ کے سرخیل شیخ سید محمد مراد مرادی کی سنہ ۱۱۰۸ھ/۱۶۹۸ء میں قائم کردہ مسجد و مدرسہ کے صدر دروازہ کی تصویر (مشیدات دمشق، ص ۴۳۲)
- ......دمشق میں واقع خانقاہ مرادیہ کا ایک منظر (مشیدات دمشق، ص ۴۳۲)
- ......مزار شریف، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ، پانی پت (بھارت)
- ......مزار شریف، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ، پانی پت (بھارت)
- ......روضہ مبارک، حضرت زندہ پیر گھمکول شریف، صوبہ سرحد (پاکستان)
- ......آخری آرام گاہ، حضرت زندہ پیر، صوبہ سرحد (پاکستان)
- ......دربار عالیہ، گھمکول شریف کی جامع مسجد، صوبہ سرحد (پاکستان)
- ......مزار، ڈاکٹر محمد اقبال، لاہور (پاکستان)
- ......مزار، ڈاکٹر محمد اقبال، لاہور (پاکستان)

☆......☆......☆



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نُورٌ عَلٰی نُورٍ یَھْدِی اللّٰہُ لِنُورِہٖ مَنْ یَّشَآءُ (النور: ۳۵)

نور پر نور ہے ، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے

نُورٌ عَلٰی نُورٍ

[illegible]

مُرقعاتِ جہانِ امامِ ربّانی مجدّدِ الفِ ثانی رضی اللہ عنہ

مرتبہ

ابو السرور محمد مسرور احمد

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ ونصلی علٰی رسولہ الکریم

نذرِ عقیدت بارگاہِ شیخ مجدد

قمر یزدانی

☆

خلاقِ دو عالم ہے نگہدارِ مجدد ہیں سرورِ کونین بھی دلدارِ مجدد
صدّیق و عمر مونس و غمخوارِ مجدد عثمان و علی بھی ہیں طرفدارِ مجدد
سرچشمۂ الطاف ہے سرکارِ مجدد اقطابِ زمانہ ہیں نمک خوارِ مجدد
ہے زیبِ نظر روئے پُر انوارِ مجدد دل میں ہے مرے لذّتِ دیدارِ مجدد
سرہند کا ہر ذرّہ ہے صد غیرتِ خورشید ہیں جلوہ فشاں دہر میں انوارِ مجدد
ہر فتنۂ باطل کو زمانے سے مٹایا اللہ رے یہ عظمتِ کردارِ مجدد
یہ روحِ مجدّد کا ہے فیضان قمر پر ہیں ذہن و قلم آج ثناء کارِ مجدد

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

آئینہ مرقعات

مرقع مقاماتِ مقدسہ

- بیت اللہ شریف، مسجد حرام، مکہ معظمہ ۴۹
- بیت اللہ شریف مسجد حرام کی جالیوں سے ۵۰
- گنبدِ خضراء ۵۱
- مسجد نبوی شریف اور گنبد خضراء ۵۲
- مسجد نبوی شریف کا اندرونی منظر ۵۳
- مسجد نبوی شریف ۵۴
- مسجد نبوی شریف اور گنبد خضراء ۵۵
- شہر مدینہ منورہ کا فضائی منظر ۵۶
- روضۂ شریف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ۵۷
- اندرونی منظر روضۂ مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ۵۸
- روضۂ مبارک سر اقدس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۵۹
- مسجد شریف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۶۰
- بیرونی منظر مزار مبارک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۶۱
- مزار مبارک حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۶۲
- مسجد شریف حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۶۳
- جامع مسجد کوفہ ۶۴

- مرقد حسین بن منصور الحلاج …… ۶۵
- مرکزی دروازہ مرقد حسین بن منصور الحلاج …… ۶۶
- مزار مبارک و مسجد شریف سید علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۶۷
- مینارۂ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۶۸
- مرکزی دروازہ دربار حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۶۹
- حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی جالیوں کا دروازہ …… ۷۰
- اندرونی منظر مزار مبارک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۷۱
- مزار پر انوار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۷۲
- روضۂ مبارک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۷۳
- دربار عالیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۷۴
- درگاہ شریف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۷۵
- مرقد انور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۷۶
- شکستہ دیوار، ایوانِ کسریٰ …… ۷۷
- مزار مبارک شیخ محی الدین ابنِ عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۷۸

مرقع نقشبندی

- سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۸۱
- روضہ شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیرونی منظر …… ۸۲
- مزار مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۸۳
- مرقد انور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۸۴
- مزار مبارک حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۸۵
- مزار مبارک حضرت بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ …… ۸۶

۞ …… مزار مبارک حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۸۷
۞ …… مزار مبارک حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۸۸
۞ …… مزار مبارک حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۸۹
۞ …… مزار مبارک حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۹۰
۞ …… مزار مبارک خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (ابن خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ) ۹۱
۞ …… مزار مبارک خواجہ عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (ابن خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ) ۹۲

مرقع مجددی اول

۞ …… روضہ شریف حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۹۵
۞ …… مسجد شریف و روضہ شریف سیدنا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۹۶
۞ …… مکتوبات شریف حضرت مجدد الف ثانی، خواجہ محمد سعید، ۹۷
اور شجرہ شریف مکتوبہ خواجہ سیف الدین علیہم الرحمۃ
۞ …… مزار پر انوار ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۹۸
۞ …… مرکزی مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۹۹
۞ …… اندرونی منظر مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰۰
۞ …… اندرونی منظر مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰۱
۞ …… جامع مسجد فیروز شاہ بادشاہ ۱۰۲
۞ …… مرکزی دروازہ جامع مسجد فیروز شاہ بادشاہ ۱۰۳
۞ …… مزار مبارک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰۴
۞ …… مزار مبارک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰۵
۞ …… محراب شریف مسجد علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۰۶

- مسجد شریف ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اندرونی منظر …… ۱۰۷
- نوتعمیر شدہ محراب مسجد شریف ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۱۰۸
- گنبد شریف مزار مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۱۰۹
- مزار مبارک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۱۱۰
- مسجد خیر المنازل شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ …… ۱۱۱
- مزار مبارک خواجہ حسام الدین علیہ الرحمۃ …… ۱۱۲
- مزار مبارک عبدالرحیم خان خاناں علیہ الرحمۃ …… ۱۱۳
- مزار مبارک عبدالرحیم خان خاناں علیہ الرحمۃ …… ۱۱۴
- مزار مبارک مرتضیٰ خاں شیخ فرید بخاری …… ۱۱۵
- مقبوضہ کشمیر …… ۱۱۶
- مقبوضہ کشمیر …… ۱۱۷
- قلعہ کانگڑہ …… ۱۱۸

مرقعِ جہاں گیری

- قبر اکبر بادشا، سکندرہ …… ۱۲۱
- عبادت خانہ، اکبر بادشاہ، فتحپور سیکری …… ۱۲۲
- قلعہ جہاں گیر بادشاہ، آگرہ …… ۱۲۳
- قلعہ جہاں گیر بادشاہ، آگرہ …… ۱۲۴
- مقبرہ جہاں گیر بادشاہ، لاہور …… ۱۲۵
- شیش محل قلعہ، لاہور …… ۱۲۶
- دروازہ قلعہ، لاہور …… ۱۲۷

- لال قلعہ، دہلی …… ۱۲۸
- دیوانِ خاص لال قلعہ، دہلی …… ۱۲۹
- دیوانِ خاص لال قلعہ دہلی …… ۱۳۰
- دیوانِ خاص کا بیرونی منظر، دہلی …… ۱۳۱
- دیوانِ عام لال قلعہ، دہلی …… ۱۳۲
- دیوانِ عام کا بیرونی منظر، دہلی …… ۱۳۳
- جامع مسجد شاہجہانی، دہلی …… ۱۳۴
- تاج محل، آگرہ …… ۱۳۵
- مزارات شاہ جہاں بادشاہ وملکہ ممتاز محل، آگرہ …… ۱۳۶
- موتی مسجد عالم گیری، لال قلعہ دہلی …… ۱۳۷
- جامع مسجد عالم گیری، لاہور …… ۱۳۸

مرقعِ مجددی دوم

- مزار مبارک خواجہ محمد صادق وخواجہ محمد سعید علیہما الرحمۃ، سرہند شریف …… ۱۴۱
- مزار مبارک خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ، سرہند شریف …… ۱۴۲
- مزار مبارک خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ، سرہند شریف …… ۱۴۳
- مزار شریف خواجہ میر محمد نعمان علیہ الرحمۃ، آگرہ …… ۱۴۴
- مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ، لاہور …… ۱۴۵
- مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ، لاہور …… ۱۴۶
- مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ، لاہور …… ۱۴۷
- مزار مبارک شیخ نور محمد بدایوانی علیہ الرحمۃ، دہلی …… ۱۴۸
- خانقاہ مظہریہ، دہلی …… ۱۴۹

- مزاراتِ مبارکہ مرزا مظہر جان جاناں، شاہ غلام علی دہلوی، شاہ ابوسعید، شاہ ابوالخیر علیہم الرحمۃ، دہلی ۱۵۰
- درگاہ شریف شیخ خالد نقشبندی علیہ الرحمۃ، دمشق ۱۵۱
- مزار پرانوار مولانا خالد النقشبندی علیہ الرحمۃ، دمشق ۱۵۲
- مزار مبارک شیخ خالد نقشبندی علیہ الرحمۃ، دمشق ۱۵۳
- کتبہ مزار مبارک شیخ خالد نقشبندی علیہ الرحمۃ، دمشق ۱۵۴
- بیرونی منظر مزار مبارک شیخ خالد نقشبندی علیہ الرحمۃ، دمشق ۱۵۵
- روضۂ شریف امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ، بریلی ۱۵۶
- مزار پرانوار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ، بریلی ۱۵۷
- مسجد جامع فتحپوری، دہلی ۱۵۸
- مسجد جامع فتحپوری، دہلی کا ایک منظر ۱۵۹
- مزار مبارک مفتی اعظم ہند شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمۃ، دہلی ۱۶۰
- مزار ڈاکٹر محمد اقبال، لاہور ۱۶۱
- روضہ شریف حضرت سالم ابوسعید مجددی علیہ الرحمۃ، کوئٹہ (بلوچستان) ۱۶۲
- روضہ شریف حضرت مفتی محمد محمود الوری نقشبندی علیہ الرحمۃ، حیدرآباد (سندھ) ۱۶۳
- روضہ شریف حضرت حکیم مشتاق احمد نقشبندی علیہ الرحمۃ، کراچی (سندھ) ۱۶۴

☆……☆……☆

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

(۲)

جہانِ امامِ ربانی

کا

موضوعاتی اشاریہ

(اقلیم اول تا یازدہم معہ نورٌ علیٰ نور)

مرتبہ

صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (مریم:۹۶)

بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب رحمٰن اُن کے لیے محبت کردیگا

جہانِ امامِ ربّانی

گوہر بار

مجدّد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم دوم

مُرتّبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد

مولانا جاوید اقبال مظہری

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی

محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

آئینہ خانہ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	ابتدائیہ —— محمد عبد الستار طاہر مسعودی	۶۹
۲	باب ۱ —— انتسابات	۷۳
۳	باب ۲ —— حمد و نعت	۷۵
۴	باب ۳ —— ابتدائیہ، افتتاحیہ اور اختتامیہ	۷۹
۵	باب ۴ —— مناقب	۸۱
۶	باب ۵ —— مناجات	۸۹
۷	باب ۶ —— تأثرات	۹۱
۸	باب ۷ —— اکابر نقشبندیہ	۹۷
۹	باب ۸ —— حضرت مجدد الف ثانی —— حالات و خدمات	۹۹
۱۰	باب ۹ —— حضرت مجدد الف ثانی، امتیازات و تفردات	۱۰۳
۱۱	باب ۱۰ —— حضرت مجدد الف ثانی اور تفسیر	۱۰۵
۱۲	باب ۱۱ —— حضرت مجدد الف ثانی اور فقہ	۱۰۷
۱۳	باب ۱۲ —— تخریج احادیث از مکتوبات شریف	۱۰۹
۱۴	باب ۱۳ —— حضرت مجدد الف ثانی اور عقائد و نظریات	۱۱۱
۱۵	باب ۱۴ —— حضرت مجدد الف ثانی اور تصوف	۱۱۳
۱۶	باب ۱۵ —— حضرت غوث اعظم، امام اعظم اور حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہم	۱۱۷
۱۷	باب ۱۶ —— حضرت مجدد الف ثانی اور تاریخ و سیاست	۱۱۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۸	باب ۱۷ــــــ مکتوبات شریف اور عربی زبان و ادب	۱۲۳
۱۹	باب ۱۸ــــــ مکتوبات شریف اور فارسی زبان و ادب	۱۲۵
۲۰	باب ۱۹ــــــ تفہیم مکتوبات شریف	۱۲۷
۲۱	باب ۲۰ــــــ حضرت مجدد الف ثانی اور متفرقات	۱۲۹
۲۲	باب ۲۱ــــــ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	۱۳۳
۲۳	باب ۲۲ــــــ نگار خانہ (تعارف مقالہ نگاران)	۱۳۹
۲۴	باب ۲۳ــــــ جہانِ امام ربانی کے مبصرین (جامِ جم)	۱۴۳
۲۵	باب ۲۴ــــــ روئداد محافل تشکر	۱۴۹
۲۶	باب ۲۵ــــــ مخطوطات	۱۵۱
۲۷	باب ۲۶ــــــ مرقعاتِ علمی (علمی نوادر)	۱۵۷
۲۸	باب ۲۷ــــــ مرقعات عمومی (مزارات و عمارات)	۱۷۳
۲۹	باب ۲۸ــــــ کتابیات	۱۸۷
۳۰	باب ۲۹ــــــ اشاریات	۱۹۱
۳۱	باب ۳۰ــــــ نظائر خوشنویسی	۱۹۵

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ابتدائیہ

از: محمد عبدالستار طاہر مسعودی

''جہانِ امام ربانی'' کے پہلے محرک حضرت علامہ رضوان احمد نقشبندی مجددی ہیں انہوں نے ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء میں نبہانی العصر، مجدد دین وملت حضرت مسعود ملت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ العزیز پر تحقیقی مقالات کو یکجا کر کے شائع کرنے کی تحریک وترغیب دلائی۔

اس اثناء میں مولانا جاوید اقبال مظہری صاحب کو خواب میں حضرت مجددؒ پر کام کرنے کیلئے اشارہ ملا، چنانچہ انہوں نے حضرت قبلہ مسعود ملت زید لطفہٗ سے ذکر کیا۔ اور امام ربانی فاؤنڈیشن کا ۲۰۰۲ء میں قیام عمل میں آیا۔ جس کے سرپرست اعلیٰ، حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب ہیں جبکہ چیئرمین جانشین مسعود ملت صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد صاحب کو منتخب کیا گیا اور مولانا جاوید اقبال مظہری صاحب بانی اور ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور امام ربانی فاؤنڈیشن کے معاملات چلانے کے لیے ایک انتظامی بورڈ مقرر کیا گیا۔

* * *

امام ربانی فاؤنڈیشن کے قیام سے قبل حضرت مجدد قدس سرہٗ العزیز کے حوالے سے کام کے لیے ۱۹۹۲ء میں حضرت مسعود ملت کی زیرنگرانی ''ادارہ معارف مجدد الف ثانی'' کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے سرپرستوں میں پیر محمد ابراہیم جان سرہندی علیہ الرحمۃ اور پیر عبدالوحید جان سرہندی تھے۔ اس ادارے کے صدر حضرت پیر فضل الرحمٰن آغا مجددی

ہیں اور نائب صدور حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور مفتی محمد جان نعیمی اور مولانا جاوید اقبال مظہری صاحب سکریٹری جنرل ہیں۔

اس ادارے نے چند کتابیں شائع کیں، لیکن فعال نہ رہا۔ چنانچہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ پر کام کے لیے امام ربانی فاؤنڈیشن کا قیام ناگزیر ہوگیا۔

○

ماہ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ/ مئی ۲۰۰۲ء میں ''جہان امام ربانی'' پر کام کا آغاز ہوا۔

حضرت قبلہ مسعود ملت اس کی جلد اوّل کے افتتاحیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

> ''ابتدا میں خیال تھا کہ یہ کام ایک جلد میں سمٹ جائے گا——— پھر کام بڑھا تو خیال آیا کہ شاید دو جلدوں میں سمٹ جائے، پھر بڑھتے بڑھتے، بڑھتا ہی چلا گیا، اور سمیٹا تو برسوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام لمحوں میں سمٹتا چلا گیا——— اور ایک نہ دو، مکمل سات ضخیم جلدوں میں کام سمٹا——— اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و نصرت، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی توجہ خاص اور اکابر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اور آباء واجداد کرام علیہم الرحمۃ کی توجہات عالیہ کے طفیل برق رفتاری سے یہ کام انجام پایا——— حوصلہ بڑھتا گیا، وہ کام ہوتے رہے جن کا وہم و گمان بھی نہ تھا''

۲۰۰۲ء سے ۲۰۰۵ء تک تین سال مسلسل جدوجہد کر کے پہلی چھ جلدیں ۱۴۲۵ھ/ ۲۰۰۵ء میں منظر عام پر آئیں جو ایک سو ملکی و غیر ملکی فضلاء و محققین کے علم و تحقیق

مقالات سے آراستہ ہیں۔ ایک اضافی جلد ''نورٌ علیٰ نور'' کے عنوان سے شائع ہوئی جو جہانِ امام ربانی کے مختلف مرقعات پر مشتمل ہے اس میں مقدس و تاریخی یادگار عمارات اور مزارات کی ۱۰۸ رنگین تصاویر آرٹ پیپر پر شائع کی گئی ہیں۔ جہانِ امام ربانی کی گیارہ جلدوں میں ہر جلد میں پانچ ابواب ہیں —— ہر جلد کو 'اقلیم' سے تعبیر کیا گیا ہے اور باب کو ''کشور'' سے —— ہر جلد میں نعت، منقبت اور تاثرات ہیں —— ہر جلد میں ابتدائیہ بھی ہے اور حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے حالات میں ایک مقالہ بھی شامل کیا گیا ہے۔

○

پہلی چھے جلدوں کی اشاعت کے بعد مزید مقالات اور نگارشات دستیاب ہوتے رہے، اور یوں مزید پانچ جلدوں کا مواد جمع ہو گیا۔ اب شُنید یہ ہے ''باقیات جہانِ امام ربانی'' کے عنوان سے دو اور جلدیں مرتب ہوں گی۔

○

''جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی'' کی گیارہویں جلد کتابیات، اشاریہ کتب و رسائل، اشاریہ اماکن، اشاریہ اسماء الرجال پر مشتمل ہے —— ''جہانِ امام ربانی مجدد الف ثانی'' کے تعارف اور موضوعاتی جائزہ پر مبنی ''جہاں نما'' برادرم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری نے مرتب کیا تھا۔ جو مزید اضافوں کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ اب حضرت قبلہ مسعود ملت نے احقر کے نام ایک کرم نامے میں تحریر فرمایا کہ:

> ''محققین کی سہولت کے لیے یہ خیال آیا کہ مقالات کا ایک (تفصیلی) موضوعاتی اشاریہ مدوّن کیا جائے۔''

چنانچہ تعمیل ارشاد میں زیرِ نظر کتابچہ مرتب کیا گیا اور موضوع کی مناسبت سے ''جہاں نما'' کو بھی اس کے شروع میں شامل کر لیا گیا ہے —— اُمید ہے کہ اہل علم و فضل

اور محققین اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے۔ برادرم پروفیسر قاری محمد رفیق مسعودی مدظلہ العالی نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر احقر کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح برادرم ملک محمد سعید مسعودی (نگران ادارۂ مظہر اسلام، لاہور) نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کی کمپوزنگ کے لیے تگ ودو فرمائی۔ اور حروف ساز برادرم سید سعید حسن زیدی قادری برکاتی نے باوجود علالت کے، اپنے آرام کا ایثار کرتے ہوئے شبانہ روز محنت شاقہ سے قارئین کے ذوق کا سامان کیا، پھر تمام تیاری کے بعد برادرم ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری مدظلہ العالی نے اس پر نظر ثانی فرما کر نوازا، احقر ان حضرات کا تہِ دل سے ممنون ہے۔ مولائے کریم اس کی اشاعت میں دامے درمے قدمے سخنے شریک تمام حضرات کی مساعی جمیلہ کو مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حسن عاقبت سے سرفراز فرمائے۔ آمین!

اللّٰھم ربنا آمین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم۔

احقر

محمد عبدالستار طاہر مسعودی

پیر کالونی۔ مین روڈ۔ والٹن

لاہور کینٹ۔ کوڈ ۵۴۸۱۰

۱۱؍رجب المرجب ۱۴۲۵ھ

۷؍اگست ۲۰۰۶ء

یوم دوشنبہ

باب نمبر ا

انتسابات

باب نمبر ۱ — انتسابات

نمبر شمار	بنام	جلد	صفحہ
۱	سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے قافلہ سالار خلیفہ اوّل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام	اوّل	۷
۲	شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے نام	دوم	۵
۳	محقق اہل سنت حضرت شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی علیہ الرحمۃ (درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی) کے نام	سوم	۵
۴	محی الدین اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کے نام	چہارم	۵
۵	برصغیر کے اُس مردِ کامل کے نام جس نے چودھویں صدی ہجری میں تعلیماتِ مجددیہ کو فروغ دیا اور اس کی مؤثر ترجمانی فرمائی۔	پنجم	۵
۶	چراغ دہلی فقیہ الہند حضرت محمد مسعود شاہ دہلوی علیہ الرحمۃ کے نام	ششم	۵
۷	محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے نام	ہفتم	۵
۸	شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری علیہ الرحمۃ کے نام	ہشتم	۵
۹	حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری علیہ الرحمۃ کے نام	نہم	۵
۱۰	محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علیہ الرحمۃ کے نام	دہم	۵
۱۱	حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے نام	یازدہم	
۱۲	مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمۃ (امام وخطیب مسجد جامع فتح پوری، دہلی) کے نام	نورٌ علیٰ نور	۷

باب نمبر ۲

حمد و نعت

باب نمبر ۲ — حمد و نعت

نمبر شمار	مطلع	نعت نگار	جلد	صفحہ
۱	ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں حرف میں نور کی تصویر کہاں سے لاؤں	کیف بنارسی	اوّل	۱۲۰
۲	وہ کمالِ حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	اول	۱۲۱
۳	زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	دوم	۱۱
۴	چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	سوم	۱۱
۵	کس کے جلوہ کی جھلک ہے، یہ اُجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدۂ حیرت زدہ، تکتا کیا ہے؟	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	چہارم	۱۳
٦	سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	پنجم	۱۱
۷	کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ، پرہیز گاری، واہ واہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	ششم	۱۳
۸	لَمْ یَاتِ نَظِیْرُکَ فِیْ نَظَرٍ، مثلِ تو نہ شُد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	ہفتم	۱۱
۹	زہے عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرشِ حق، زیرِ پائے محمد	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	ہشتم	۱۱

نمبر شمار	مطلع	نعت نگار	جلد	صفحہ
۱۰	وہ سُوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن، اے بہار پھرتے ہیں	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	نہم	۱۱
۱۱	بھینی سُہانی صبح میں، ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	دہم	۱۳
۱۲	سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی	یازدہم	۱۳



بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ (بقرہ: ۱۰۵)

(اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے)

جہانِ امامِ ربّانی

گوہرِ قدس

مجدّد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم سوم

مرتبین
صاحبزادہ ابو السّرور محمّد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرثانی
محمّد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

باب نمبر۳

ابتدائیہ ، افتتاحیہ اور اختتامیہ

باب نمبر ۳ —— ابتدائیہ، افتتاحیہ اور اختتامیہ

نمبر شمار	ابتدائیہ/افتتاحیہ	لکھنے والے	جلد	صفحہ
۱	تقدیم	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	اول	۴۱ تا ۵۸
۲	ابتدائیہ	مولانا جاوید اقبال مظہری	اول	۵۹ تا ۶۸
۳	افتتاحیہ	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	اول	۶۹ تا ۱۱۵
۴	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۱۹ تا ۲۰
۵	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	سوم	۱۹ تا ۲۰
۶	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۲۵ تا ۲۶
۷	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	پنجم	۲۳ تا ۲۵
۸	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۲۱ تا ۲۳
۹	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ہفتم	۲۳ تا ۲۶
۱۰	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ہشتم	۱۹ تا ۲۲
۱۱	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	نہم	۱۹ تا ۲۲
۱۲	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دہم	۲۹ تا ۳۳
۱۳	ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم	۲۹
۱۴	اختتامیہ	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	یازدہم	۹۰۳
۱۵	حرف آغاز	مولانا جاوید اقبال مظہری	نور علیٰ نور	۱۱ تا ۱۲

الحسد يأكل الحسنات
كما تأكل النار الحطب

باب نمبر ۴

مناقب

باب نمبر ۴ —— مناقب

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۱	سپیدہ دم کہ ازیں خاکدانِ ظلمانی علم کشید سرِعرشِ روحِ سیلانی	عابد حسین عابد سہسوانی	اوّل	۱۲۳
۲	امام زماں قطب اقطاب عالم کہ چوں اوندانم کہ بگزشت یک تن	خواجہ عبداللہ بن خواجہ باقی باللہ	اوّل	۱۲۵
۳	ذبابے را تمنائے شکر شد بدین سودا سوئے ہر بام و در شد (مثنوی شریف در شان حضرت مجدد الف ثانی)	خواجہ محمد ہاشم کشمی	اوّل	۱۳۵
۴	سراپا نسخۂ اخلاق فاروق بزہر منقصت تریاق فاروق	خواجہ محمد ہاشم کشمی	اوّل	۱۴۴
۵	نقشبندیہ عجب طائفہ پرکاراند کہ چو پرکار درین دائرہ سربرکاراند (قصیدہ درمدح خواجہای نقشبندیہ)	شیخ محمد شعیب	اوّل	۲۰۱
۶	مرکزِ نور و تجلّی ہے دیارِ سرہند واہ کیا شان ہے کیا عزّ و وقارِ سرہند	قاری غلام صابر قدیری سندیلوی	اوّل	۳۸۹
۷	مرکزِ نور و تجلّی ہے دیارِ سرہند واہ کیا شان ہے کیا عزّ و وقارِ سرہند	ڈاکٹر اقبال سرہندی	اوّل	۳۹۲
۸	کیا نہاد شکستہ دیں کو آکے پھر استوار تو نے خزاں رسیدہ چمن کو پھر کردیا سراپا بہار تو نے	سید فیض الحسن شاہ	دوم	۱۴
۹	اے خاکِ پاک روضہ عبیری و عنبری کہ اہلِ جہاں زبوئے تو مدہوش گشتہ اند	شاہ عبدالغنی محدث دہلوی	دوم	۱۶

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۱۰	حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ زیر فلک مطلع انوار	ڈاکٹر محمد اقبال	دوم	۱۸
۱۱	خلاق دو عالم ہے نگہ دار مجددؒ ہیں سرور کونین بھی دلدار مجددؒ	قمر یزدانی	سوم	۱۳
۱۲	پلا دے ساقیا ساغر مجدد الف ثانی کا کہ ہوں مشتاق میں یکسر مجدد الف ثانی کا	خواجہ احمد حسین خاں نقشبندی	سوم	۱۴
۱۳	خود آشنا بھی رہا اور خدا آگاہ بھی تھا وہ ایک مرد قلندر جو بادشاہ بھی تھا	کلیم عثمانی	سوم	۱۵
۱۴	تم سا ہے مجدد کون ولی سلطان عالم سرہندی ہے شان تمہاری البیلی سلطان عالم سرہندی	اعزاز الدین احمد صدیقی	سوم	۱۶
۱۵	صاحب تجدید دینِ احمد مختار ہے اس لیے تو شیخ سرہند سے ہم کو پیار ہے	عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری	سوم	۱۷
۱۶	مجدد نامہ (منظوم سوانح)	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	سوم	۳۵
۱۷	ای شہنشاہ ھدی محبوب درگاہ احد مادر گیتی نزادہ مثل تو نیکو ولد	خواجہ نظام الدین سرہندی	چہارم	۱۷
۱۸	بگو داستان ز احمد نقشبند کہ داری دل از داغ مہرش سپند	خواجہ عبدالاحد وحدت	چہارم	۲۱
۱۹	دکھا دے اے خدا روضہ مجدد الف ثانی کا کہ ہوں مدت سے میں شیدا مجدد الف ثانی کا	خواجہ احمد حسین خاں نقشبندی	چہارم	۲۲

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۲۰	اے عالم اسلام کی شخصیت خوددار اللہ نے بخشی ہے تجھے دولت کردار	قمر یزدانی	چہارم	۲۴
۲۱	آفتاب شرف (قصیدہ)	محمد ابوالشرف مجددی معصومی	چہارم	۳۴
۲۲	محی دین شیخ احمد بے گماں طبق حال عہد خود کردہ بیاں	چوہدری غلام صمدانی	چہارم	۳۰
۲۳	چوں دگر فرسود رنگ اسلام را داد شرکت با خدا اصنام را (مثنوی صمدانی)	چوہدری غلام صمدانی	چہارم	۴۲
۲۴	اشک ریزاں بنشتم سرہر وہ گزرے ہر کہ از ہر طرف آید ز تو پرسم خبرے . (اشک باری و دل فگاری)	خواجہ محمد ہاشم کشمی	چہارم	۳۵۲
۲۵	سرہند کی وہ پاک زمیں خطہ جنت آرام جہاں کرتا ہے اک محرم اسرار	تاج الدین تاج	پنجم	۱۴
۲۶	تیرے انوار تاباں یا مجدّد گلستاں در گلستاں یا مجدّد (مقام رفیع)	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدّدی	پنجم	۱۶
۲۷	یہ کچھ اشعار بے جاں یا مجدد کہاں ہیں تیرے شایاں یا مجدد (خلق کریم)	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجدّدی	چہارم	۱۸
۲۸	صدر بزم عارفاں ہیں تاجدار سرہند رہنمائے سالکاں ہیں تاجدار سرہند	ابوالارشد محمد حفیظ نقشبندی	پنجم	۳۶۹

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۲۹	سرمہ ہے مری آنکھ کا یہ خاک گہر بار خوابیدہ ہے اس خاک میں وہ بندہ بیدار	سید انیس احمد نقشبندی	ششم	۱۵
۳۰	رُخ توحید کے زیور مجدد الف ثانی ہیں نوید ظلِ پیغمبر مجدد الف ثانی ہیں	بشیر حسین ناظم	ششم	۱۸
۳۱	عظیم المرتبت ذی شاں مجدد الف ثانی ہیں ظہور جلوۂ یزداں مجدد الف ثانی ہیں	ابو الطاہر فدا حسین فدا	ششم	۱۹
۳۲	دہر را مژدہ کہ وضعے دگرے پیدا شد زشبِ تیرہ مبارک سحرے پیدا شد (میلاد مجددؒ)	محمد سلیم جان سلیم مجددی	نورعلی نور ہشتم	۲۴ ۱۶
۳۳	سپیدۂ دم کہ ازیں خاکدانِ ظلمانی علم کشید سرعرش روح سیلانی (کدام شاہ مجدد)	عابد حسین عابد سہوانی	نورعلی نور	۲۷
۳۴	تعالی اللہ کسے یارا ہے آں حضرت کی مدحت کا ہے نام پاک شیخ احمد گل باغ ولایت کا (قصیدہ در شانِ مجدد الف ثانی)	خواجہ احمد حسین خاں نقشبندی	ہفتم	۱۵
۳۵	اے مجدد! لاج رکھ لی تھی ہماری آپ نے کرکے تجدید وفا کی تاجداری آپ نے	ڈاکٹر اقبال سرہندی	ہفتم	۱۶
۳۶	چراغِ نقشبنداں خواجہ معصوم ملاذ مستمنداں خواجہ معصوم (قصیدہ در مدح حضرت خواجہ معصوم)	مولانا محمد حسن نوحانی زکوڑی	ہفتم	۱۷

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۳۷	سرور افزا فضا سرہند کی معلوم ہوتی ہے یہاں کی زندگی میں زندگی معلوم ہوتی ہے (دربار عالیہ مجددیہ سرہند شریف)	حمید صدیقی لکھنوی	ہفتم	۱۹
۳۸	جو آنکھیں ہیں تو پڑھ شیخ مجدد کی وہ تحریریں نہاں ہیں جن کے ہر نقطے میں دین و دل کی تفسیریں (شانِ مجددؒ)	فیض لدھیانوی	ہفتم	۲۱
۳۹	امام زماں قطب اقطابِ عالم کہ چوں اوندانم کہ بگزشت یک تن	خواجہ عبداللہ ابن خواجہ باقی باللہ	ہشتم	۱۳
۴۰	فخر الکرام وقدوۃ لفنائہم زین الخلیقۃ مقتدیٰ دینِ الہدیٰ	محمد جان العمری البحری آبادی	ہشتم	۱۴
۴۱	مکاتیب آن شاہ عالی نسب کہ در الف ثانی ست امام ہمام (قطعات تاریخ طبع مکتوبات امام ربانی) امرتسر ایڈیشن ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء	محمد عبداللہ نقشبندی مجددی	ہشتم	۱۷۷
۴۲	یاالٰہی! اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے (حضرت مجدد کا شجرۂ طریقت قادریہ صابریہ)	مرزا غلام جیلانی پشاوری متخلص بہ صحیح سالم	ہشتم	۳۶۱
۴۳	مرے دل میں محبت ہے مجدد الف ثانی کی مرا توشہ عقیدت ہے مجدد الف ثانی کی	علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہجہانپوری	نہم	۱۵

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۴۴	شمع رہ عرفاں ہیں مجدد الف ثانی ایماں کے نگہباں ہیں مجدد الف ثانی	پروفیسر عبدالحفیظ کاردار قادری نوری	نہم	۱۷
۴۵	سپیدہ دم کہ ازیں خاکدان ظلمانی علم کشید سر عرش روح سیلانی	عابد حسین عابد سہوانی	دہم	۱۹
۴۶	اے عالم اسلام کی شخصیت خوددار اللہ نے بخشی تھی تجھے دولت کردا	قمر یزدانی	دہم	۲۲
۴۷	اے شہنشاہ مجدد، کاشف اسرار ذات تیرے در کا راستہ ہے بالیقیں راہ نجات	پروفیسر محمد حسین آسی	دہم	۲۳
۴۸	نوائے صبح سعادت پہ بے شمار سلام نسیم باغ ہدایت پہ بے شمار سلام	خالد محمود خالد نقشبندی	دہم	۲۶
۴۹	عصر نو میں دین حق کا ترجماں جاتا رہا مسلک حب نبی کا پاسباں جاتا رہا	ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری	دہم	۵۱۳
۵۰	سپیدہ دم کہ ازیں خاکدان ظلمانی علم کشید سر عرش روح سیلانی	عابد حسین عابد سہوانی	دہم	۱۹
۵۱	اے عالم اسلام کی شخصیت خوددار	قمر یزدانی	دہم	۲۲
۵۲	اے شہنشاہ مجدد، کاشف اسرار ذات تیرے در کا راستہ ہے بالیقیں راہِ نجات	پروفیسر محمد حسین آسی	دہم	۲۳
۵۳	نوائے صبح سعادت پہ بے شمار سلام نسیم باغ ہدایت پہ بے شمار سلام	خالد محمود خالد نقشبندی	دہم	۲۶

شمار	مطلع	منقبت نگار	جلد	صفحہ
۵۴	کتابوں میں لکھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا مجدد الف ثانی کے بارے میں سنا ہوگا	سید یونس جمشید پوری	یازدہم	۲۰
۵۵	اس کا جاہ و مرتبہ اس کا حشم انقلاب وقت سے ہوگا نہ کم	طارق سلطانپوری	یازدہم	۲۲
۵۶	ولایت کے وہ میر کارواں ہیں مجدد قصر حق کے پاسباں ہیں	محمد حفیظ نقشبندی	یازدہم	۲۴
۵۷	صاحب تجدید دین احمد مختار آپ ماحی دین الٰہی، ناہی اشرار آپ	سید شبیر حسین شاہ زاہد	یازدہم	۲۵۰
۵۸	دل و جاں میں جلوہ نما شیخ مجدد ہیں بحمد اللہ! میرا آسرا شیخ مجدد ہیں	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	یازدہم	۴۴
۵۹	رہے زباں پہ شان امام ربانی سنا اے کلک بیانِ امام ربانی	پروفیسر محمد حسین آسی	یازدہم	۷۷۵
۶۰	عجب رنگ پر ہے جہان مجدد فروغ قمر ہے جہان مجدد	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	یازدہم	۷۷۸
۶۱	اُٹھایا جس نے دین حق کا پرچم بنا جو غازیانِ ہند کا ضیغم	ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی	یازدہم	۸۶۲
۶۲	اے خاک پاک روضہ عبیری و عنبری کہ اہل جہان ز بوئے تو مدہوش گشتہ ارز	شاہ عبد الغنی مہاجر مکی	یازدہم	۹۰۲
۶۳	آج تک ہے گونج کس کے نعرۂ تکبیر کی	پروفیسر محمد حسین آسی	یازدہم	۹۲۴

باب نمبر ۵

مناجات

باب نمبر ۵ــــــ مناجات

ش	مطلع	شاعر	جلد	صفحہ
۱	جفا ہر سو ہے رقصاں یا مجدد یہ اُمت ہے پریشان یا مجدد	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	پنجم	۲۰
۲	حضرت احمد مجدد المدد الف ثانی راضیای اوّل	نواب معشوق یار جنگ بہادر (مقامات محمود، ص ۳۸۵)	پنجم	۳۴۰
۳	لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی	ڈاکٹر محمد اقبال	پنجم	۵۰۷
۴	میں ہوں اور موج بلا خیز ہے شیأللّٰہ شاہ سرہند، ہوا تیز ہے شیأللّٰہ	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	ششم	۱۷
۵	یا مجدد الف ثانی اے شہہ عالی جناب مقتدائے شرق و غرب و ملجائے شیخ و شباب	عبدؔاللہ جان عرف شاہ آغا سوم	ششم	۴۰۸
۶	خداوندا بحق اسم اعظم بنور سید اولاد آدم	مولانا خالد کردی شامی نقشبندی	ششم	۸۵۸
۷	المدد چشم و چراغ قادری می سزد در خواجگانت خواجگی (ہشت لوائے غوث اعظم علیہ الرحمۃ)	نواب معشوق یار جنگ بہادر (مقامات محمود)	ہشتم	۳۷۰
۸	یا مجدد الف ثانی پیر غمخوارم مدد ای شہنشاہ ھدیٰ محبوب درگاہ احد مادر گیتی نزادہ مثل تو نیکو ولد	خواجہ نظام الدین سرہندی	نہم	۱۳
۹	خداوندا بحُسن بے مثالت مرآتی کہ ے تابد جمالت	مولوی وکیل احمد سکندر پوری	یازدہم	۹۸۵

باب نمبر ۶

تاثرات

باب نمبر٦ —— تأثرات

شمار	تاثر نگار	حوالہ	جلد	صفحہ
۱	خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ	''زبدۃ المقامات'' مطبوعہ کانپور	اوّل	۱۲۹
۲	حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	مکتوب بنام خواجہ معصوم، دفتر دوم، مکتوب ٦	اول	۱۳۲
۳	حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ	''جواہر مجددیہ'' از خواجہ احمد حسین خان	اول	۱۴۰
۴	حضرت شیخ احمد جام علیہ الرحمۃ	''حضرات القدس'' جلد دوم	اول	۱۴۰
۵	حضرت خلیل اللہ بدخشی علیہ الرحمۃ	''حضرات القدس'' جلد دوم	اول	۱۴۱
٦	شیخ عبداللہ قطب علیہ الرحمۃ	مکتوبات شیخ عبداللہ قطب (قلمی)	اول	۱۴۱
۷	شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ	''جواہر مجددیہ''	اول	۱۴۲
۸	شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمۃ	''جواہر مجددیہ''	اول	۱۴۲
۹	شیخ نظام نارنول علیہ الرحمۃ	''جواہر مجددیہ''	اول	۱۴۲
۱۰	شیخ عبداللہ سہروردی علیہ الرحمۃ	''جواہر مجددیہ''	اول	۱۴۲
۱۱	ارکان سلطنت اکبری	''جواہر مجددیہ''	اول	۱۴۳
۱۲	شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ	''مرج البحرین''	اول	۱۴۵
۱۳	شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق محدث دہلوی	''تمہ اخبار الاخیار''	اول	۱۴٦
۱۴	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ	''نفائس السانحات فی تذییل الباقیات الصالحات	اول	۱۴۷
۱۵	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی	''مکتوبات امام احمد رضا بریلوی''	اول	۱۴۷
۱٦	مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمۃ	بروایت شیخ محمد عارف ضیاء مدنی	اول	۱۴۸
۱۷	نواب صدیق حسن خان	''تقصار جیود الاحرار من تذکار جنود الابرار	دوم	۲۱
۱۸	ابوالحسن علی ندوی	''تاریخ دعوت وعزیمت'' جلد چہارم	دوم	۲۲

شمار	تاثر نگار	حوالہ	جلد	صفحہ
۱۹	شیخ محمد اکرام	''رودِ کوثر''	دوم	۲۳
۲۰	رشید احمد گنگوہی	قلمی بیاض علامہ محمد ہاشم جان سرہندی	دوم	۲۴
۲۱	ڈاکٹر محمد اقبال	مکتوب پروفیسر یوسف سلیم چشتی	سوم	۲۱
۲۲	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	''شیخ سرہند''	سوم	۲۲
۲۳	ڈاکٹر حفیظ ملک	مسلم نیشنل ازم ان انڈیا & پاکستان	سوم	۲۲
۲۴	ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی	ہسٹری آف دم فریڈم موومنٹ	سوم	۲۲
۲۵	ڈاکٹر زبید احمد	دی کنٹری بیوشن آف انڈیا ٹو عربیک لٹریچر	سوم	۲۲
۲۶	پروفیسر عزیز احمد	اسٹڈیز ان اسلامک کلچر	چہارم	۲۸
۲۷	پروفیسر سید خورشید حسین بخاری	ماہنامہ نور اسلام ''مجدد الف ثانی نمبر''	چہارم	۲۸
۲۸	پروفیسر محمد عارف اظہر	ماہنامہ نور اسلام ''مجدد الف ثانی نمبر''	چہارم	۲۸
۲۹	پروفیسر محمد اسلم	دین الٰہی اور اس کا پس منظر	چہارم	۲۹
۳۰	پروفیسر محمد رضا خان	تاریخ مسلمانانِ عالم	چہارم	۲۹
۳۱	ابوالکلام آزاد	عقیدہ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی	پنجم	۲۶
۳۲	ابوالاعلیٰ مودودی	مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی	پنجم	۲۶
۳۳	مولانا محمد سعید احمد مجددی	''البیان''	پنجم	۲۷
۳۴	شاہ حسین گردیزی	ماہنامہ نور اسلام ''مجدد الف ثانی نمبر''	پنجم	۲۷
۳۵	مولوی داؤد غزنوی	حیات اعلیٰ حضرت	پنجم	۲۸
۳۶	عبداللہ روپڑی	حیات اعلیٰ حضرت	پنجم	۲۸
۳۷	عبدالمجید سالک	مسلم ثقافت ہندوستان میں	ششم	۲۴

شمار	تاثر نگار	حوالہ	جلد	صفحہ
۳۸	جمیل اطہر سرہندی	شیخ سرہند	ششم	۲۴
۳۹	اکبر شاہ خان نجیب آبادی	''قول حق''	ششم	۲۵
۴۰	سید انور علی ایڈووکیٹ	شیخ سرہند	ششم	۲۵
۴۱	سید انور علی ایڈووکیٹ	رئیل اچیومنٹ آف ہیومن لائف	ششم	۲۶
۴۲	انسائیکلوپیڈیا پاکستانیکا	سید قاسم محمود	ششم	۲۶
۴۳	شخصیات کا انسائیکلوپیڈیا		ششم	۲۶
۴۴	اردو دائرہ معارف اسلامیہ	انسائیکلوپیڈیا آف اسلام، جلد دوم	ششم	۲۶
۴۵	ڈاکٹر محمود الحسن عارف		ششم	۲۹۲
۴۶	جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری		ہفتم	۲۷
۴۷	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور	ہفتم	۲۸
۴۸	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد		ہفتم	۲۸
۴۹	پیر سید عاشق حسین مجددی سرہندی		ہفتم	۲۸
۵۰	محمد خالد مجددی		ہفتم	۲۸
۵۱	منیر حسین مسعودی	برمنگھم (یو۔کے)	ہفتم	۲۸
۵۲	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور	نہم	۲۳
۵۳	علامہ یٰسین اختر مصباحی	بانی وصدر ''دارالقلم''، ذاکر نگر، دہلی	نہم	۲۳
۵۴	مولانا شیر محمد خان رضوی	دارالعلوم اسحاقیہ، جودھ پور راجستھان	نہم	۲۴
۵۵	حاجی معراج الدین مسعودی	صدر ادارۂ مسعودیہ، کراچی	نہم	۲۵
۵۶	حضرت ابوحفص عمر المجددی	سجادہ نشین خانقاہ شاہ ابوالخیر، کوئٹہ	ہشتم	۲۳

شمار	تاثر نگار	حوالہ	جلد	صفحہ
۵۷	علامہ محمد علیم الدین نقشبندی	شیخ الحدیث دار العلوم سلطانیہ، جہلم	ہشتم	۲۵
۵۸	پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق ابڑو	پرنسپل پبلک اسکول، حیدر آباد سندھ	ہشتم	۲۵
۵۹	سید ذوالفقار شاہ مسعودی	ٹورنٹو، کینیڈا	ہشتم	۲۶
۶۰	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	شاہی امام وخطیب مسجد جامع فتحپوری. دہلی	دہم	۳۵
۶۱	پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور	دہم	۳۶
۶۲	مفتی محمد جان نعیمی	مہتمم دار العلوم مجددیہ نعیمیہ، ملیر کراچی	دہم	۳۷
۶۳	پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق نقشبندی	استاد گورنمنٹ ایم۔ اے۔ او۔ کالج لاہور	دہم	۳۸
۶۴	ڈاکٹر سید محمد عارف	اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور	یازدہم	۳۷
۶۵	ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی	علی گڑھ مسلم یونیوسٹی	یازدہم	
۶۶	عبدالحیٔ لکھنوی		یازدہم	۳۷
۶۷	محمد عظیم نقشبندی		یازدہم	۳۷
۶۸	پروفیسر ڈاکٹر آرتھر بیولر		یازدہم	۶۱۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِھدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ اَنعَمتَ عَلَیھِم (الفاتحۃ)

ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ اُن کا جن پر تو نے اِحسان کیا ،

جہانِ امامِ ربّانی

گوہرِ تقدس

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم چہارم

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد

مولانا جاوید اقبال مظہری

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی

محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی

اسلامی جمہوریہ پاکستان

۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

باب نمبر ۷

اکابر نقشبندیہ مجددیہ

باب نمبر ۷ ——— اکابر نقشبندیہ مجددیہ

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	قافلہ سالار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خلیفہ اوّل حضرت ابوبکر صدیق ؓ	صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری	اوّل	۲۰۴
۲	حضرت خواجہ نقشبند اور طریقت نقشبندیہ	پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد	اول	۲۲۳
۳	خواجگان نقشبندیہ اور تبلیغ اسلام	پروفیسر عبدالحکیم مراد مترجم: ڈاکٹر علی سرفراز مسعودی	اوّل	۲۵۸
۴	خواجہ محمد عبدالباقی کابلی (حیات، مناقب وکرامات)	مولانا محمد صادق کابلی مترجم: مولانا سید محمد دہلوی	اوّل	۲۶۹،
۵	حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہٗ	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	اوّل	۲۹۳
۶	حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ (مختصر حالات زندگی)	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	اوّل	۳۱۶
۷	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ (ایک تعارف)	محمد عبدالمجید یزدانی	اوّل	۳۶۵
۸	حضرت مجدد کے سلسلہ عالیہ کے حضرات قدسیہ	خواجہ بدرالدین سرہندی مترجم: اعزازالدین احمد	چہارم	۳۵۴
۹	مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی	چہارم	۳۶۷
۱۰	خواجہ محمد معصوم، مقاماتِ آدمیہ کی روشنی میں	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	چہارم	۳۸۷
۱۱	تذکرہ خلفائے مجدد الفِ ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی فاروقی	چہارم	۴۷۱

باب نمبر ۸

حضرت مجددالف ثانی

—حالات وخدمات (جلد ۱ تا ۱۱)

باب نمبر ۸ — حضرت مجدد الف ثانی — حالات وخدمات

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	امام ربانی مجدد الف ثانی کے حالات زندگی	ڈاکٹر سراج احمد خاں	اول	۴۰۵
۲	حضرت مجدد الف ثانی، لباس اور حلیہ شریف	محمد احسان مجددی سرہندی	اول	۴۴۱
۳	خانقاہ مجددی کا علمی ماحول	مفتی محمد علیم الدین نقشبندی مجددی	اول	۴۴۲
۴	ماہ وسال (سیرت مجدد الف ثانی)	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری	دوم	۲۷
۵	حضرت مجدد الف ثانی کے معمولات	سید زوّار حسین شاہ	دوم	۴۰۷
۶	معمولات حضرت امام ربانی	پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد	دوم	۴۲۵
۷	امام ربانی کا لقب ''مجدد الف ثانی''	علامہ محمد فیض احمد اویسی	دوم	۶۱۷
۸	''مجدد الف ثانی'' ایک تحقیقی جائزہ	ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر	دوم	۶۳۳
۹	شیخ احمد سرہندی	ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ وسید نذیر نیازی	سوم	۲۵
۱۰	کرامات امام ربانی مجدد الف ثانی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	سوم	۵۷۲
۱۱	امام ربانی مجدد الف ثانی	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	چہارم	۵۰
۱۲	حضرت مجدد الف ثانی	کوثر نیازی	چہارم	۵۸
۱۳	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی	نواب محمد صدیق حسن خاں بھوپالی	چہارم	۶۳
۱۴	حضرت مجدد الف ثانی کا سفر آخرت	خواجہ بدرالدین سرہندی مترجم: اعزاز الدین احمد	چہارم	۳۳۹
۱۵	اشک باری ودل فگاری	خواجہ محمد ہاشم کشمی	چہارم	۳۵۲
۱۶	تاریخ ہائے وصال حضرت مجدد	خواجہ محمد ہاشم کشمی	چہارم	۳۵۳
۱۷	تعارف امام ربانی مجدد الف ثانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	پنجم	۳۱

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱۸	حضرت مجدد الف ثانی	شیخ نور الحق بن شیخ عبد الحق محدث دہلوی	ششم	۲۹
۱۹	امام ربانی مجدد الف ثانی	محمد صادق قصوری	ہشتم	۲۹
۲۰	امام ربانی کا سلسلہ نسب	سید زوار حسین شاہ	ہشتم	۳۵۷
۲۱	شیخ احمد سرہندی (سوانحی خاکہ)	ڈاکٹر ظفر الاسلام	نہم	۲۹
۲۲	احمد سرہندی مجدد الف ثانی	دکتور جمال الدین الشیال اردو ترجمہ: ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	نہم	۵۱
۲۳	حضرت مجدد لاہور میں	پروفیسر محمد اقبال مجددی	نہم	۶۵
۲۴	لاہور سے امام ربانی کی نسبت	ابو السرور محمد مسرور احمد	نہم	۷۳
۲۵	شیخ احمد سرہندی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	دہم	۴۱
۲۶	مفکر اسلام شیخ احمد سرہندی	پروفیسر محمد وکیل احمد	دہم	۴۹
۲۷	شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی	ڈاکٹر ابو اعجاز رستم	دہم	۹۱
۲۸	خواجہ محمد معصوم حرمین شریفین میں	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	دہم	۱۷۱
۲۹	شاہجہان واورنگزیب کے مرشد کریم	ڈاکٹر محمد ادریس	دہم	۱۸۱
۳۰	تجلیات امام ربانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	یازدہم	۴۵
۳۱	امام ربانی مجدد الف ثانی	ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی	یازدہم	۶۵
۳۲	شیخ احمد سرہندی	پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر عباس رضوی مترجم: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی	یازدہم	۹۹
۳۳	ایک مرد آگاہ	ڈاکٹر عبد الوارث خاں	یازدہم	۱۰۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو

جہانِ امامِ ربّانی

کوہر تک

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم پنجم

مرتبین
صاحبزادہ ابو السّرور محمّد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی
محمّد عالم مختارِ حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

باب نمبر ۹

حضرت مجدد الف ثانی — امتیازات و تفردات

باب نمبر۹—حضرت مجددالف ثانی—امتیازت وتفردات

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	حضرت مجددالف ثانی، حضرت خواجہ باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر ڈاکٹر غلام سرور	اول	۳۶۵
۲	مقام حضرت مجددالف ثانی، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی نظر میں	پروفیسر سید محمد کبیر مظہر	اول	۳۷۷
۳	امام ربانی کا منصب قیومیت	پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی	اول	۶۷۲
۴	امام ربانی مجددالف ثانی کی شانِ قیومیت	علامہ محمد فیض احمد اویسی	اول	۶۹۰
۵	امتیازات امام ربانی مجددالف ثانی	علامہ محمد ذاکراللہ نقشبندی	اول	۴۳۵
۶	مقاماتِ مجدد	مولانا محمد عبدالاحد	سوم	۱۱۱
۷	مقام مجددالف ثانی	ڈاکٹر محمد اختر چیمہ	سوم	۱۲۱
۸	حضرت مجددالف ثانی کا مقام تجدید	علامہ محمد جلال الدین قادری	سوم	۱۴۴
۹	حضرت مجددالف ثانی کے مقاماتِ روحانی کی چند جھلکیاں۔	ڈاکٹر الف۔د۔نسیم	سوم	۱۵۳
۱۰	حضرت مجدد دانشوروں کی نظر میں	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	چہارم	۳۲۰
۱۱	شیخ احمد سرہندی اور مستشرقین	ڈاکٹر محمد سلطان شاہ	ہشتم	۳۹۳
۱۲	مجددالف ثانی کی علم پروری اور علماء نوازی	صاحبزادہ بدرالاسلام صدیقی	نہم	۱۹۳
۱۳	امام احمد رضا پر حضرت مجدد کے اثرات	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	نہم	۲۰۷
۱۴	حضرت مجددالف ثانی اور ان کے ناقدین	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	نہم	۲۳۳
۱۵	خاندانِ مجددیہ سے قائداعظم کے اجداد کی عقیدت	سید صابر حسین شاہ بخاری	نہم	۵۷۴
۱۶	مقام مجددالف ثانی	ابوالسرور محمد مسرور احمد	دہم	۱۰۵

باب نمبر ۱۰

حضرت مجددالف ثانی اور علم تفسیر

باب نمبر ۱۰ — حضرت مجدد الف ثانی اور علم تفسیر

شمار	عنوان	تحریر	جلد	صفحہ
۱	تفسیر مظہری میں معارف واذکار امام ربانی	علامہ مفتی محمد جان نعیمی	ہفتم	۲۵۱
۲	افکار مجدد الف ثانی اور تفسیر روح المعانی	پروفیسر قاری محمد رفیق مسعودی	ہفتم	۲۷۷

باب نمبر ۱۱

حضرت مجددالف ثانی
اور فقہ

باب نمبر ۱۱ —— حضرت مجدد الف ثانی اورفقہ

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	حضرت مجدد کی فقہی خدمات	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	اول	۱۸۳
۲	امام ربانی مجدد الف ثانی کا تصور بدعت	پروفیسر حافظ سید مقصود علی	اول	۳۵۷
۳	امام ربانی کا نظریہ قیومیت اور لفظ ''قیوم'' پر امام احمد رضا کے فتوے کی فقیہانہ تحقیق	مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی	اول	۶۵۱
۴	سنت حضرت مجدد کی نظر میں	پیر عبد اللطیف نقشبندی	دوم	۳۲۵
۵	بدعت کیا ہے؟	پیر عبد اللطیف نقشبندی	دوم	۳۲۹
۶	امام ربانی مجدد الف ثانی کا تصور بدعت	پروفیسر حافظ سید مقصود علی	دوم	۳۵۷
۷	نبوت و رسالت کا اثبات	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی	سوم	۱۹۹
۸	نماز کا جائزہ (مکتوبات و معمولات امام ربانی کی روشنی میں)	مولانا بدر الاسلام صدیقی	سوم	۴۳۰
۹	حضرت مجدد الف ثانی کا طریقہ نماز	مولانا بدر الاسلام صدیقی	سوم	۴۴۶
۱۰	حضرت مجدد بحیثیت فقیہ اسلام	علامہ محمد صدیق ہزاروی	ہشتم	۱۳۹

باب نمبر ۱۲

تخریج احادیث از مکتوبات

باب نمبر ۱۰ — تخریج احادیث از مکتوبات

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	تخریج احادیث (مکتوبات مجدد الف ثانی، جلد سوم)	پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	دوم	۳۲
۲	تخریج احادیث در مکتوبات (فارسی)	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	ہفتم	۲۹۷
۳	تخریج احادیث مکتوبات امام ربانی	ابوکلیم محمد صدیق فانی	ہفتم	۳۳۹



الحمد لله

باب نمبر ۱۳

حضرت مجدد الف ثانی
اور عقائد و نظریات

باب نمبر ۱۳ — حضرت مجدد الف ثانی اور عقائد ونظریات

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	حضرت مجدد الف ثانی اور مسلک اہل سنت	علامہ غلام مرتضی ساقی مجددی	اول	۳۷۵
۲	شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی وتجدیدی تحریک کا مرکز ومحور نبوت محمدی (ﷺ) پر ایقان وایمان	ڈاکٹر اے۔ ایف۔ ایم ابوبکر صدیق مترجم: ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی	سوم	۲۳۷
۳	عقیدہ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی	پروفیسر سید شبیر حسین زاہد	سوم	۲۴۰
۴	وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم	پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی	سوم	۳۰۴
۵	ردِ روافض	امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی	سوم	۳۰۹
۶	حضرت مجدد الف ثانی اور تقلید ائمہ مجتہدین	علامہ محمد جلال الدین قادری	سوم	۳۲۹
۷	امام ربانی اور رفع سبابہ	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	سوم	۳۳۹
۸	مکتوبات امام ربانی در طریق ایصال ثواب ووسیلہ	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی	سوم	۳۵۵
۹	بعض عقائد ومعمولاتِ اہل سنت (مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں)	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	سوم	۳۵۷
۱۰	عقائد وتعلیمات حضرت مجدد الف ثانی	قاضی غلام محمود ہزاروی	سوم	۴۰۰
۱۱	مسلک مجدد الف ثانی	صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری	سوم	۴۱۲
۱۲	حضرت مجدد الف ثانی کے تعلیمی افکار	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	سوم	۵۰۷
۱۳	مسئلہ اشارۂ سبابہ	مولوی سید احمد علی نقشبندی	ہشتم	۱۴۷
۱۴	طالبانِ علم کے لیے مینارۂ نور	صاحبزادہ محمد بدر الاسلام صدیقی	ہشتم	۴۴۹
۱۵	احمد بن عبدالاحد کے نزدیک عقائد اہل سنت	دکتور محمود احمد غازی مترجم: پروفیسر عبدالرسول	ہشتم	۳۳۱
۱۶	مجدد الف ثانی کا پیغام	مفتی علی احمد سندیلوی	ہشتم	۴۷۷
۱۷	فکر مجدد الف ثانی میں خلفاء راشدین کا مقام ومرتبہ	محمد یاسین مظہر صدیقی	نہم	۸۱

باب نمبر۱۴

حضرت مجددالف ثانی اور تصوّف

باب نمبر ۱۴ —— حضرت مجدد الف ثانی اور تصوف

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	تصوف اور اس کی بنیاد	صاحبزادہ محمد عمر بیربلوی	اول	۱۵۱
۲	روحِ اسلام	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	اول	۱۶۷
۳	مکتوبات شریف حضرت خواجہ محمد باقی باللہ بنام حضرت مجدد الف ثانی	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ	اول	۳۵۳
۴	امام ربانی اور علم لدنی	شیخ الحدیث ابن الصدیق محمد ہادی بخش	اول	۴۳۱
۵	امام ربانی اور علم النفسیات	ڈاکٹر محمد اقبال مرتبہ: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	اول	۵۵۳
۶	امام ربانی اور علم الکائنات	میاں فضل احمد حبیبی	اول	۵۵۸
۷	دعوت الی اللہ میں مجدد الف ثانی کا کارنامہ	ڈاکٹر خالد علوی	دوم	۲۹۵
۸	ذکر الٰہی کی اہمیت (حضرت مجدد کے مکتوبات کی روشنی میں)	مولانا نور الحسن تنویر چشتی	دوم	۳۹۳
۹	جذب و سلوک	شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی	دوم	۴۵۲
۱۰	امام ربانی کی تعلیماتِ تصوف	صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمٰن	دوم	۵۰۰
۱۱	عہد اکبری کے صوفیہ کی اصلاح میں مکتوباتِ امام ربانی کا کردار	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۵۱۰
۱۲	حضرت مجدد الف ثانی، تزکیہ نفس اور اخلاص	پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی	دوم	۵۱۹
۱۳	صحو و سکر مکتوبات امام ربانی کے آئینے میں	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	دوم	۵۳۵
۱۴	امام ربانی، عرفان کے مجتہد اعظم	پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	دوم	۷۱۵

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱۵	حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الشہود	ڈاکٹر سراج احمد خاں	دوم	۷۴۰
۱۶	ابن عربی اور امام ربانی کے بعض نظریات (ایک تقابلی جائزہ)	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	دوم	۷۵۳
۱۷	وحدۃ الوجود	علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی	دوم	۷۵۸
۱۸	نبوت و رسالت کا اثبات	حضرت مجدد الف ثانی	سوم	۱۹۹
۱۹	حضرت مجدد کا انداز تعلیم و تبلیغ اور اُس کے اثرات و نتائج	پروفیسر پیر نثار احمد جان سرہندی	سوم	۴۵۳
۲۰	چالیس ارشادات امام ربانی	علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری	سوم	۵۱۳
۲۱	حضرت مجدد کے اوراد	مولانا بدر الاسلام صدیقی	سوم	۵۲۳
۲۲	راہِ ہدایت	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	سوم	۵۳۸
۲۳	ملفوظات حضرت مجدد الف ثانی	مولانا جاوید اقبال مظہری	سوم	۵۴۶
۲۴	مقدمہ شرح مکتوباتِ امام ربانی	مولوی نصر اللہ ہوتکی	پنجم	۱۸۷
۲۵	فلسفۂ اقبال پر حضرت مجدد کے اثرات	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	پنجم	۴۱۹
۲۶	تاریخ مکتوبات امام ربانی	ابوالسرور محمد مسرور احمد	ہشتم	۱۷۹
۲۷	جواہر مکتوباتِ مقدسہ	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	ہشتم	۱۹۷
۲۸	نرمی و آسانی (مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں)	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	ہشتم	۲۸۵
۲۹	مسلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	ہشتم	۳۰۹
۳۰	نقشبندیہ سلسلہ تصوف	محمد حنیف رامے	دہم	۱۹۳

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۳۱	مرزا مظہر جانِ جاناں اور تصوف، ادیان و مذاہب کے درمیان وسیلہ	ڈاکٹر محمد تعظیم	دہم	۲۳۷
۳۲	ارشادات سید امام علی شاہ مکان شریفی	سید شعیب افتخار مسعودی	دہم	۲۲۹
۳۳	ملفوظاتِ مرزا مظہر جانِ جاناں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دہم	۲۵۱
۳۴	شجرہ مصافحہ		یازدہم	۱۳۲
۳۵	حقیقت محمدیہ، حقیقت احمدیہ اور حقیقت کعبہ، مکتوبات کی روشنی میں	صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر	یازدہم	۱۳۳

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ

باب نمبر ۱۵

حضرت غوث الاعظم، امام اعظم اور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہم

باب نمبر ۱۵ —— حضرت غوث الاعظم، امام اعظم اور مجدد الف ثانی

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	حضرت غوث اعظم، حضرت مجدد کی نظر میں	امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی	پنجم	۵۴۶
۲	حضرت غوث اعظم اور حضرت مجدد الف ثانی	مرزا مظہر جانِ جاناں	پنجم	۵۵۰
۳	حضرت غوث اعظم، شاہِ نقشبند اور حضرت مجدد	صوفی محمد صدیق ضیاء انجینئر	پنجم	۵۵۶
۴	حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت غوث الاعظم	مولانا محمد اقبال سعیدی	پنجم	۵۶۷

● —— حضرت امام اعظم اور حضرت مجدد الف ثانی

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	امام اعظم حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں	علامہ محمد عبد الحکیم اختر شاہجہانپوری	پنجم	۵۲۱

اَلْحَسَدُ یَأْکُلُ الْحَسَنَاتِ
کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

باب نمبر ١٦

حضرت مجدد الف ثانی
اور تاریخ وسیاست

باب نمبر ۲۰ — حضرت مجدد الف ثانی اور تاریخ و سیاست

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	مرکز نور و تجلی ہے دیار سرہند	قاری غلام صابر قدیری سندیلوی	اول	۳۸۹
۲	شان سرہند بزبان مجدد سرہند	امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی	اول	۳۹۱
۳	دیار سرہند	ڈاکٹر اقبال سرہندی	اول	۳۹۲
۴	اللہ والوں کی سرزمین	جمیل اطہر سرہندی	اول	۳۹۳
۵	سرہند شریف ایک نظر میں	صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین مجددی	اول	۴۰۳
۶	حضرت مجدد الف ثانی کی ملی دینی خدمات	پروفیسر محمد عارف اظہر	سوم	۱۷۶
۷	حضرت مجدد مطلع تاریخ پر	آباد شاہ پوری	چہارم	۶۵
۸	اکبر و جہانگیر اور مجدد الف ثانی	قاضی ظہور احمد اختر	چہارم	۱۰۱
۹	برصغیر میں حق و باطل کے معرکے	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	چہارم	۱۵۷
۱۰	دو قومی نظریہ اور حضرت مجدد الف ثانی	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	چہارم	۱۷۲
۱۱	حضرت مجدد الف ثانی اور دو قومی نظریہ	پروفیسر محمد اسلم	چہارم	۱۸۴
۱۲	برصغیر میں دو قومی نظریہ کی بنیاد اور تحریک مجدد الف ثانی	سردار علی احمد خاں قادری	چہارم	۱۹۱
۱۳	خاندان مجدد کا زرّیں کردار	سردار علی احمد خاں قادری	چہارم	۲۸۵
۱۴	شیخ احمد سرہندی، سلسلہ مجددیہ کا نقطہ آغاز اور سلطنت مغلیہ پر اس کے اثرات	پروفیسر ڈاکٹر آرتھر بیولر سالم عبداللہ مترجم: ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی	چہارم	۳۰۶
۱۵	حضرت مجدد اور محمد علی جناح	مولانا محمد بخش مسلم	چہارم	۳۱۴

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱۶	سرمایہ ملت کا نگہبان	ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	چہارم	۳۱۵
۱۷	وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان	پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی	چہارم	۳۷۹
۱۸	مکتوباتِ معصومیہ، شاہ اورنگزیب عالمگیر کے نام — اور مکتوباتِ سیفیہ شاہ اورنگزیب عالمگیر، شہزادہ محمد معظم اور شہزادی روشن آراء کے نام	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	چہارم	۴۰۱
۱۹	حضرت مجدد اور علماء عصر	ڈاکٹر سراج احمد خاں	چہارم	۵۰۹
۲۰	حضرت مجدد کے معاصر علماء و مشائخ سے اختلافات کا تحقیقی جائزہ	ڈاکٹر محمد انصار خاں نقشبندی	چہارم	۵۵۰
۲۱	شاہان کابل وافغانستان سرہند شریف میں	صاحبزادہ سید محمد عاشق حسین شاہ	ششم	۲۲۱
۲۲	حضرت مجدد کا کارنامہ (علماء سوء کے کردار و عمل کے حوالے سے)	صاحبزادہ محمد عبد السلام	ہشتم	۴۴۹
۲۳	شیخ احمد سرہندی اور اہلِ حکومت میں شریعت کی ترویج	ڈاکٹر ظفر الاسلام	نہم	۹۷
۲۴	شیخ احمد سرہندی، اصلاحی وتجدیدی خدمات کی روشنی میں	محمد شمیم اختر قاسمی	نہم	۱۲۹
۲۵	مجدد الف ثانی کی عربی نگارشات اور کار تجدید میں ان کی اہمیت	جمشید احمد ندوی	نہم	۱۷۵
۲۶	شیخ احمد سرہندی کی تحریک احیاء دین	پروفیسر محمد اقبال مجددی	دہم	۱۱۵

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۲۷	مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سے سلاطین کی ارادت وعقیدت	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	یازدہم	۲۰۱
۲۸	مکتوب خواجہ محمد سعید بنام والی یمن امام اسماعیل	خواجہ محمد سعید	یازدہم	۲۰۵
۲۹	توضیحات	پروفیسر سید کبیر احمد مظہر	یازدہم	۲۳۷



باب نمبر ۱۷

مکتوبات شریف
اور
عربی زبان وادب

باب نمبر ۱۷ ــــ مکتوبات شریف اور عربی زبان وادب

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	حضرت شیخ احمد سرہندی کی عربی زبان وادب میں خدمات	ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی	اول	۲۵۸
۲	مکتوبات امام ربانی کا عربی ترجمہ	عبدالحق انصاری	پنجم	۱۴۵
۳	اعلیٰ عربی زبان وادب کی مثال، مکتوبات امام ربانی	اورنگزیب اعظمی	دہم	۱۲۵



باب نمبر ۱۸

مکتوبات شریف
اور
فارسی زبان وادب

باب نمبر ۱۸ — مکتوبات شریف اور فارسی زبان وادب

شمار	عنوانِ مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	خاندانِ مجددیہ اور فارسی ادب	ڈاکٹر ادریس احمد	نہم	۴۷۵
۲	مکتوبات خواجہ ہاشم کشمی بنام حضرت مجدد الف ثانی (فارسی، قلمی)	خواجہ محمد ہاشم کشمی	دہم	۱۳۹

الله نور السموات والارض

باب نمبر ۱۹

تفهیم مکتوبات شریف

باب نمبر ۱۹ ——— تفہیم مکتوبات شریف

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	مکتوبات امام ربانی — ایک تحقیقی جائزہ	حکیم محمد موسیٰ امرتسری	پنجم	۱۰۳
۲	مکتوبات کی فہم و تفہیم میں حضرات مجددیہ کی کوششیں	پروفیسر محمد اقبال مجددی	پنجم	۱۳۱

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ
۱۴۰۲

باب نمبر ۲۰

حضرت مجدد الف ثانی اور متفرقات

باب نمبر ۲۰ —— حضرت مجدد الف ثانی متفرقات

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	علم اور علماء حضرت مجدد الف ثانی کی نظر مین	مفتی محمد علیم الدین نقشبندی	سوم	۴۶۳
۲	تصانیف امام ربانی مجدد الف ثانی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ	پروفیسر خورشید حسین بخاری	پنجم	۶۳
۳	تکملہ: تصانیف امام ربانی مجدد الف ثانی کا تحقیقی جائزہ	میاں محمد عالم مختار حق	پنجم	۹۸
۴	مکتوباتِ امام ربانی حضرت ضیاء المشائخ کی نظر میں	ضیاء المشائخ محمد ابراہیم مجددی	پنجم	۱۷۷
۵	''زبدۃ المقامات'' اور ''حضرات القدس'' کا تقابلی جائزہ	پروفیسر خورشید حسین بخاری	پنجم	۲۰۷
۶	سلسلہ مجددیہ کا ایک ترک مصنف	ڈاکٹر امین وشیر	پنجم	۲۲۹
۷	حضرت مجدد الف ثانی اور مارکسی مؤرخین	ڈاکٹر جمال محمد صدیقی	پنجم	۲۳۹
۸	حضرت مجدد الف ثانی کے دفاع میں لکھی جانے والی کتابیں	پروفیسر محمد اقبال مجددی	پنجم	۲۶۷
۹	حضرت مجدد کے اقوال پر مبنی دو تصانیف: ''تعلیمات مجددیہ'' اور ''ارشادات مجددیہ''	وقار انبالوی	پنجم	۲۹۱
۱۰	حضرت مجدد مغرب میں	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	پنجم	۲۹۹
۱۱	حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا	پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری	پنجم	۳۴۳
۱۲	حضرت امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ	صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد	پنجم	۳۷۰

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱۳	امام ربانی اور امام اہل سنت	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	پنجم	۳۸۷
۱۴	حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	پنجم	۳۹۴
۱۵	تصانیف اقبال میں ذکر مجدد	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	پنجم	۴۹۱
۱۶	فلسفۂ اقبال پر حضرت مجدد کے اثرات	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	پنجم	۴۱۹
۱۷	دور حاضر میں درپیش چیلنجز اور اُن کا مقابلہ (حضرت مجدد کی دعوت حق اور طرز تبلیغ وارشاد کی روشنی میں)	پروفیسر محمد عامر بیگ	ہشتم	۴۳۱
۱۸	حضرت مجدد پر اعتراضات اور جوابات	ابوالرضا مفتی محمد نیر مجددی	ہشتم	۲۲۱
۱۹	عہد حاضر اور حضرت مجدد الف ثانی (کام کی رفتار کا سرسری جائزہ)	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	ہشتم	۴۲۱
۲۰	حضرت مجدد اور ذرائع ابلاغ	صوفی غلام سرور نقشبندی	ہشتم	۴۴۳
۲۱	حضرت مجدد کا حسن ادب	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	ہشتم	۴۷۱
۲۲	سلسلہ نقشبندیہ کے مخطوطات کی اشاعت میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کی خدمات	ڈاکٹر مسرور احمد زئی	دہم	۵۱۵
۲۳	علم الکلام میں حضرت مجدد کے اجتہادات	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	یازدہم	۱۵۱
۲۴	جام جم (جہانِ تبریک وتشکر)	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم	۷۷۷
۲۵	فہارس جہانِ امام ربانی (اقلیم اوّل تا یازدہم)	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم	۸۶۳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (النور: ۳۷)

وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے ۔

جہانِ امامِ ربّانی

گوہرِ تقدس

مجدّد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم ششم

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظر ثانی
محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی ، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

باب نمبر ۲۱

مشایخ نقشبندیہ مجددیہ

(جلد ۴ تا ۱۱)

باب نمبر۲۱ — مشایخ نقشبندیہ مجددیہ

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱	سلسلہ مجددیہ کے نامور شیخ مرزا مظہر جانِ جاناں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۵۷۱
۲	حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری	چہارم	۵۸۸
۳	ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی	شاہ رؤف احمد مجددی	چہارم	۶۰۵
۴	مولانا شیخ خالد نقشبندی	ڈاکٹر مہیند خت معتمدی مترجم: شیخ محمد یونس باڑی مظہری	چہارم	۶۱۶
۵	قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی (مکتوبات شریف کا ایک مترجم)	محمد عالم مختار حق	پنجم	۱۹۵
۶	دنیائے عرب کے مشایخ نقشبندیہ مجددیہ	عبدالحق انصاری	ششم	۷۱
۷	تیرہویں صدی کے عرب مشایخ نقشبندیہ مجددیہ	عبدالحق انصاری	ششم	۱۰۵
۸	ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں حضراتِ نقشبندیہ	انا ملے بوشر مترجم: ڈاکٹر ثروت ندیم مسعودی	ششم	۱۲۲
۹	حافظ عمر ضیاء الدین داغستانی	زیب النساء مسعودی مترجم: کمانڈر محمد ظفر مجددی	ششم	۱۳۷
۱۰	شیخ محمد معصوم ضیائے نقشبندی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۱۴۴
۱۱	ترکی کے بعض مشایخ نقشبندیہ مجددیہ	مترجم: کمانڈر محمد ظفر مجددی	ششم	۱۵۰
۱۲	کردستان میں سلسلہ خالدیہ مجددیہ	فرہاد شکیلی مترجم: ڈاکٹر صفی الدین مسعودی	ششم	۱۵۵
۱۳	افغانستان میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ	جناب بوتاس مترجم: شیخ محمد یونس باڑی مظہری	ششم	۱۷۵

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۱۴	افغانستان کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۱۸۸
۱۵	دہلی کے بعض مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	مولانا جاوید اقبال مظہری	ششم	۲۲۳
۱۶	مولانا غلام نقشبند گھوسوی (اعظم گڑھ)	فروغ احمد مصباحی	ششم	۲۸۷
۱۷	مولانا شاہ آل محی الدین ہادی نقشبندی	اشرف خان، ایم۔ اے	ششم	۲۸۹
۱۸	سندھ کے اولیائے نقشبند	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	ششم	۲۹۵
۱۹	سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ	تحریر: ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر مرتب: صاحبزادہ محمد مسرور احمد	ششم	۳۲۹
۲۰	ضمیمہ: سندھ کے ممتاز صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۵۶۲
۲۱	بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر انعام الحق کوثر	ششم	۵۹۱
۲۲	ضمیمہ: بلوچستان کے صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۶۵۳
۲۳	پنجاب کی نقشبندی خانقاہوں پر ایک طائرانہ نظر	پیرزادہ اقبال احمد فاروقی	ششم	۶۴۲
۲۴	تکملہ: پنجاب کی نقشبندی خانقاہیں	محمد صادق قصوری	ششم	۶۵۹
۲۵	مولانا محمد حسین پسروری نقشبندی	محمد یونس	ششم	۶۸۱
۲۶	کشمیر کے چند مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۶۸۳
۲۷	سرحد کے بعض صوفیائے نقشبندیہ مجددیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۷۰۷
۲۸	خانقاہ نقشبندیہ موسیٰ زئی شریف	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	ششم	۷۹۳
۲۹	حضرت زندہ پیر گھمکول شریف	مولانا محمد رفیق مجاہد نقشبندی	ششم	۸۰۳
۳۰	حضرت مجدد کا شجرہ طریقت قادریہ صابریہ	مرزا غلام جیلانی پشاوری	ہشتم	۳۶۱
۳۱	حضرت مجدد کے سلسلہ ہائے طریقت	سید محمد عبداللہ قادری	ہشتم	۳۶۳

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۳۲	حضرت مجدد کے اربعہ سلاسل طریقت	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ہشتم	۳۷۳
۳۳	مشائخ نقشبندیہ (ماہ وسال کے آئینے میں)	محمد یوسف مجددی	ہشتم	۳۸۵
۳۴	خدمت خلق اور صوفیائے نقشبند	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	نہم	۲۱۷
۳۵	شیخ احمد سرہندی اور شیخ عبدالحق دہلوی	خلیق احمد نظامی	نہم	۴۳۳
۳۶	شیخ عبدالحق دہلوی کے ایک معاصر، مجدد الف ثانی	ڈاکٹر علیم اشرف خاں	نہم	۴۷۱
۳۷	قادری شہرت پانے والے مشائخ نقشبندیہ	محمد صادق قصوری	دہم	۲۱۷
۳۸	شاہ امان اللہ نقشبندی افغانی	مولانا عبدالباقی نقشبندی	دہم	۲۶۳
۳۹	خواجہ فیض محمد شاہ قندھاری	پروفیسر غلام سرور رانا	دہم	۲۶۷
۴۰	تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ (سرحد)	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	دہم	۲۷۹
۴۱	خواجہ غلام حسن نقشبندی (سواگ شریف)	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	دہم	۳۱۳
۴۲	خواجہ غلام قاسم کمبوہ نقشبندی	قاری محمد شریف کمبوہ	دہم	۳۱۹
۴۳	خواجہ رکن الدین صدیقی نقشبندی	کوکب زمان	دہم	۳۲۵
۴۴	شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	دہم	۳۲۹
۴۵	تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ پوٹھوہار	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی مجددی	دہم	۳۴۳
۴۶	بلوچستان میں نقشبندی خانقاہیں	ڈاکٹر سلطان الطاف علی	دہم	۳۶۵
۴۷	مولانا سید حبیب اللہ نقشبندی توکلی	پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر	دہم	۳۸۵
۴۸	مولانا سید محمد یوسف نقشبندی	پروفیسر سید محمد کبیر احمد مظہر	دہم	۳۹۳
۴۹	پروفیسر علامہ محمد نور بخش توکلی	صوفی عبدالستار طاہر مسعودی	دہم	۳۷۷
۵۰	حافظ محمد رانجھا نقشبندی مجددی	شاہد احمد خان مسعودی	دہم	۳۹۹

شمار	عنوان مقالہ	مقالہ نگار	جلد	صفحہ
۵۱	چند ممتاز مشائخ نقشبندیہ (خواجہ محمد نامدار، صوفی محمد علی، خواجہ سید امین)	ابو البیان علامہ محمد سعید احمد مجددی	دہم	۴۱۱
۵۲	خواجہ محمد سعید نقشبندی (پیر مٹھا)	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	دہم	۴۳۳
۵۳	مولانا غلام محی الدین قصوری	پیرزادہ اقبال احمد فاروقی	دہم	۴۴۹
۵۴	خواجہ محمد فضل علی مجددی	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	دہم	۴۵۹
۵۵	خواجہ محمد عبد الغفار فضلی نقشبندی	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	دہم	۴۷۵
۵۶	علامہ سید حبیب احمد حبیب نقشبندی	پروفیسر شاہ انجم بخاری	دہم	۴۸۷
۵۷	حضرت کرماں والے	ملک بشیر احمد	دہم	۴۹۱
۵۸	پروفیسر محمد حسین آسی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	دہم	۴۹۵
۵۹	شیخ محمد ناظم عادل قبرطی	مرتبین ''جہانِ امام ربانی''	یازدہم	۲۱۹
۶۰	مولانا نور الدین نورانی نقشبندی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	یازدہم	۲۲۷



بسم اللہ الرحمن الرحیم

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ (یونس ۶۴)

اُنھیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں

جہانِ امامِ ربّانی

گوہرِ قلم

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم ہفتم

زیرِ سرپرستی: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد

مولانا جاوید اقبال مظہری

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی

محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان

۱۴۲۷ھ / ۲۰۰۶ء

باب نمبر ۲۲

نگارخانہ

(تعارف مقالہ نگاران)

(جلد ۱ تا ۱۲)

باب نمبر ۲۲ —— نگار خانہ (تعارف مقالہ نگاران)

شمار	نام شخصیت	ماخذ/مصنف	جلد	صفحہ
۱	شاہ ابوالحسن زید فاروقی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	اوّل	۴۵۷
۲	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	اوّل	۴۵۸
۳	جمیل اطہر سرہندی	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	اوّل	۴۵۹
۴	ڈاکٹر سراج احمد خاں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	اوّل	۴۶۰
۵	پروفیسر ڈاکٹر شمس الدین احمد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	اوّل	۴۶۰
۶	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	اوّل	۴۶۱
۷	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	اوّل	۴۶۲
۸	ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۷۶۴
۹	پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۷۶۵
۱۰	علامہ عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	دوم	۷۶۵
۱۱	پیر عبداللطیف نقشبندی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۷۶۶
۱۲	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دوم	۷۶۷
۱۳	ڈاکٹر الف۔ د۔ نسیم	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	سوم	۶۰۸
۱۴	پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر چیمہ	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	سوم	۶۰۸
۱۵	صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	سوم	۶۰۹
۱۶	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	سوم	۶۰۹
۱۷	سردار علی احمد خان قادری	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۶۲۴
۱۸	قاضی ظہور احمد اختر	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	چہارم	۶۲۵

شمار	نام شخصیت	ماخذ/مصنف	جلد	صفحہ
۱۹	مولانا کوثر نیازی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۶۲۵
۲۰	ڈاکٹر محمد ایوب قادری	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۶۲۶
۲۱	پروفیسر محمد اسلم	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	چہارم	۶۲۷
۲۲	پروفیسر محمد اقبال مجددی	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	پنجم	۵۸۱
۲۳	پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	پنجم	۵۸۲
۲۴	صاجبزادہ ابوالخیر محمد زبیر	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۸۱۰
۲۵	ڈاکٹر انعام الحق کوثر	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	ششم	۸۱۱
۲۶	پیرزادہ اقبال احمد فاروقی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۸۱۲
۲۷	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	ششم	۸۱۳
۲۸	پروفیسر عبدالحفیظ کاردار	ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی	نہم	۵۸۸
۲۹	راجہ نور محمد نظامی نقشبندی	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	دہم	۹۰۶

سورہ اخلاص مربع

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ (البقرہ ۲۰۷)

اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا چاہنے میں

جہانِ امامِ ربّانی

کے متعلق

مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم ہشتم

زیرِ سرپرستی: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی
محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۷ھ / ۲۰۰۶ء

باب نمبر ۲۳

جامِ جم

(جھانِ تبریک وتشکر)

(جلد ۱۱)

باب نمبر ۲۳ ——جامِ جم (جہان امام ربانی کے مبصرین)

❶ ——عُلماء ومشایخ کرام

شمار	نام شخصیت	مسکن
۱	خواجہ محمد صادق نقشبندی مجددی	(اگہار، آزاد کشمیر، پاکستان)
۲	علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی	(بہاول پور، پاکستان)
۳	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری	(لاہور، پاکستان)
۴	علامہ جمیل احمد نعیمی	(کراچی، پاکستان)
۵	حضرت ابوحفص عمر مجددی	(کوئٹہ پاکستان)
۶	خواجہ محمد عبداللہ جان نقشبندی	(پشاور، سرحد، پاکستان)
۷	حکیم سید اکرام حسین چشتی سیکری	(میرپور خاص، سندھ، پاکستان)
۸	علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	(دہلی، بھارت)
۹	علامہ ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر	(حیدرآباد، سندھ، پاکستان)
۱۰	علامہ عبدالمبین نعمانی	(مبارکپور، اعظم گڑھ، بھارت)
۱۱	علامہ مفتی محمد علیم الدین نقشبندی	(جہلم، پاکستان)
۱۲	علامہ محمد منشا تابش قصوری	(لاہور، پاکستان)
۱۳	علامہ محمد صدیق ہزاروی	(لاہور، پاکستان)
۱۴	مولانا قاری محمد میاں نقشبندی	(ملتان، پاکستان)
۱۵	مولانا محمد قمرالدین نقشبندی	(سنام گنج، بنگلہ دیش)
۱۶	مولوی ابوالحسن سلطان احمد مسعود چشتی	(حافظ آباد، پنجاب، پاکستان)
۱۷	علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی	(کراچی، پاکستان)

شمار	نام شخصیت	مسکن
۱۸	علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی	(لاہور، پاکستان)
۱۹	ابو قاسم سید جلال الدین پاشا قادری	(جدہ، سعودی عرب)
۲۰	صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی	(لاہور، پاکستان)
۲۱	پیر طریقت عبد العزیز صدیقی نقشبندی	(اندور، بھارت)
۲۲	علامہ مفتی محمد احمد نعیمی	(ملیر، کراچی، پاکستان)
۲۳	صاحبزادہ سید محمد طاہر مظہری	(اسلام آباد، پاکستان)
۲۴	میاں فضل احمد حبیبی	(گجرات، پنجاب، پاکستان)
۲۵	علامہ محمد احمد اسد رضا	(ڈبیلہ، آزاد کشمیر، پاکستان)
۲۶	علامہ محمد رضوان احمد خان نقشبندی	(کراچی، پاکستان)
۲۷	مولانا جمیل احمد قادری	(لورالائی، بلوچستان، پاکستان)
۲۸	مولوی محب اللہ تراہی	(کوہاٹ، سرحد، پاکستان)
۲۹	مولوی جمیل احمد الوری نوحی	(دہلی، بھارت)
۳۰	مولانا محمد اقبال سعیدی	(سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان)
۳۱	مفتی محمد نصیر الدین نصیر	(شورکوٹ، پنجاب، پاکستان)
۳۲	مولانا احمد القادری	(حیدر آباد، سندھ، پاکستان)
۳۳	مفتی محمد خالد مجددی	(گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان)
۳۴	علامہ حافظ اللہ دتہ نقشبندی	(پاکپتن، پنجاب، پاکستان)
۳۵	مولانا حافظ سخی محمد مہربان سکندری	(سانگھڑ، سندھ، پاکستان)
۳۶	مولانا معاذ احمد صدیقی	(کراچی، پاکستان)

شمار	نام شخصیت	مسکن
۳۷	مولانا محمد نجم الحسن نقشبندی مجددی	(ڈیرہ اسماعیل خان، سرحد، پاکستان)
۳۸	مولانا مجاہد عبدالرسول خان	(لاہور، پاکستان)
❷	**دانشوران**	
۱	سردار علی احمد خان	(لاہور، پاکستان)
۲	سید انور علی ایڈووکیٹ	(کراچی، پاکستان)
۳	پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی	(لاہور، پاکستان)
۴	محمد عالم مختار حق	(لاہور، پاکستان)
۵	شاہ انجم بخاری	(حیدرآباد، سندھ، پاکستان)
۶	پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی	(کوئٹہ، پاکستان)
۷	پروفیسر حافظ سید مقصود علی	(کراچی، پاکستان)
۸	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	(شکر گڑھ، پنجاب، پاکستان)
۹	پروفیسر عبدالقدوس جان سرہندی	(میرپور خاص، سندھ، پاکستان)
۱۰	پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس	(لاہور، پاکستان)
۱۱	پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد رفیق نقشبندی	(لاہور، پاکستان)
۱۲	پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد	(شیخوپورہ، پنجاب، پاکستان)
❸	**خواصِ اہل سُنت**	
۱	محمد فیاض صدیقی	(گجرات، پنجاب، پاکستان)
۲	محبوب احمد بھٹی نقشبندی	(لیہ، پنجاب، پاکستان)
۳	محمد یونس نوشاہی	(حافظ آباد، پنجاب، پاکستان)

شمار	نام شخصیت	مسکن
۴	محمد وسیم قادری	(لاہور، پاکستان)
۵	نوخیز انور صدیقی	(اسلام آباد، پاکستان)
۶	محمد زبیر اختر القادری	(کراچی، پاکستان)
۷	ڈاکٹر شیر محمد مسعودی	(لاہور، پاکستان)
۸	منیر حسین مسعودی	(برمنگھم، یو۔ کے)
۹	شاہ ذوالفقار علی مسعودی	(ٹورنٹو، کینیڈا)
۱۰	فواد عرفان شیخ	(ابوظہبی)
۱۱	شہزاد احمد اعوان قادری	(بھکر، پنجاب، پاکستان)
۱۲	خلیل احمد رانا	(جہانیاں منڈی، پنجاب، پاکستان)
۱۳	ملک محبوب الرسول قادری	(لاہور، پاکستان)



مختص الملک الرافۃ والعدل والجود

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (فصلت ۳۰)

بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے اُن پر فرشتے اترتے ہیں

جہانِ امامِ ربّانی

کی عظمت

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم نہم ۹

زیرِ سرپرستی: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد
مولانا جاوید اقبال مظہری
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی
محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی
اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۷ھ/۲۰۰۶ء

باب نمبر ۲۴

رُوئداد محافلِ تشکّر

(جلد ۱۱)

باب نمبر ۲۴ — رُوئداد محافلِ تشکّر

❶— محفل تشکر بسلسلہ اجراء جہانِ امام ربانی، کراچی

(یکم ربیع الاوّل ۱۴۲۶ھ/ ۱۰؍اپریل ۲۰۰۵ء)

● — ابتدائیہ	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم
● — خطبہ صدارت	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	یازدہم
● — خطبہ استقبالیہ	مولانا جاوید اقبال مظہری	یازدہم
● — تعارف امام ربانی فاؤنڈیشن	مولانا جاوید اقبال مظہری	یازدہم
● — روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم

❷— قومی جہان امام ربانی کانفرنس، لاہور

(۱۴؍ربیع الاوّل ۱۴۲۶ھ/ ۲۴؍اپریل ۲۰۰۵ء)

● — خطبہ صدارت	ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد	یازدہم
● — خطبہ استقبالیہ	جمیل اطہر سرہندی	یازدہم
● — روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم
● — اظہار خیال	پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد	یازدہم

❸— حضرت مجدد الف ثانی عالمی کانفرنس، دہلی

(۳۱؍مارچ ۲۰۰۶ء)

● — روئداد	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم

باب نمبر ۲۵

مخطوطات

باب نمبر ۲۵ —— مخطوطات

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱	عکس مخطوط: شرح التعریف لمذہب التصوف		ہفتم	۴۸۳
۲	رسالہ در وحدۃ الوجود	خواجہ محمد فرخ شاہ مجددی	ہشتم	۴۹۵
۳	خزائن نبوت	خواجہ عبد الاحد وحدت	ہشتم	۴۹۸
۴	رسالہ اسرار الفقراء	خواجہ عبد الاحد وحدت	ہشتم	۵۰۱
۵	رسالہ مقاصد السالکین (صفحہ اول و آخر)	خواجہ عبد الخالق غجدوانی (م۵۷۵ھ)	دہم	۵۵۷،۸
۶	رسالہ جامع الکلم (صفحہ اول)	خواجہ عبد الخالق غجدوانی	دہم	۵۵۹
۷	رسالہ خواجہ عزیزاں	خواجہ علی رامتینی (م۷۱۵ھ)	دہم	۵۶۰
۸	رسالہ قدسیہ (صفحہ اول و آخر)	خواجہ محمد پاوسا (م۸۰۲ھ)		۵۶۲
		(خلیفہ خواجہ علاء الدین عطار)	دہم	۵۶۳
۹	رسالہ محبوبیہ (صفحہ اول و آخر)	خواجہ محمد پارسا	دہم	۵۶۴،۵
۱۰	رسالہ خواجہ عبید اللہ احرار (صفحہ اول و آخر)	خواجہ عبید اللہ احرار (م۸۹۵ھ)	دہم	۵۶۶،۷
۱۱	جمال السلوک (قلمی)	منسوب بحضرت مجدد الف ثانی مخزونہ کتب خانہ مدینہ منورہ	دہم	۵۸۲،۳
۱۲	لوامع الاسرار شرح عطویات الاسرار (قلمی)	منسوب بحضرت مجدد الف ثانی	دہم	۵۸۴
۱۳	مخطوطہ مکتوبات امام ربانی	مخزونہ: سید محمد عاشق حسین شاہ نقشبندی	دہم	۵۸۶
۱۴	نمونہ تحریر حضرت مجدد الف ثانی		دہم	۵۸۷
۱۵	سرورق مخطوطہ: مکتوبات امام ربانی (دفتر اول: صفحہ اول و آخر)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابو الخیر، دہلی	دہم	۵۸۸،۹

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۶	سرورق مخطوطہ: مکتوبات امام ربانی (دفتر دوم: صفحہ اول و آخر)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۵۹۰،۱
۱۷	سرورق مخطوطہ: مکتوبات امام ربانی (دفتر سوم: صفحہ اول و آخر)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۵۹۲تا۵۹۷
۱۸	فہرست مخطوطات ورسائل سبع	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۵۹۸تا۶۰۰
۱۹	مخطوطہ مبداء معاد (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۱
۲۰	مخطوطہ معارف لدنیہ (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۲
۲۱	مخطوطہ مکاشفات غیبیہ (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۳
۲۲	مخطوطہ تحقیق در کلمہ طیبہ (رسالہ تہلیلیہ (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۴
۲۳	مخطوطہ شرح بعض رباعیات (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۵
۲۴	مخطوطہ رسالہ ردِ روافض (صفحہ اول)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۶
۲۵	مخطوطہ تحقیق النبوت (اثبات النبوۃ) (صفحہ اول و آخر)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۰۶،۷
۲۶	مخطوطہ زبدۃ المقامات (صفحہ اول، دوم)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۷۱ تا ۶۷۵
۲۷	مخطوطہ زبدۃ المقامات بخط حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی (صفحہ اول، دوم)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۶۸ ۶۶۹
۲۸	مخطوطہ زبدۃ المقامات بخط احمد علی نقشبندی (صفحہ اول، دوم، صفحہ ۴۷۸، ۴۷۹)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۶۳ تا ۶۶۷

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۲۹	مخطوطہ حضرات القدس (دفتر ثانی) (صفحہ اول و آخر)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۷۶ تا ۶۷۹
۲۹	مخطوطہ حضرات القدس (دفتر ثانی) (تصحیح کردہ حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی)	مخزونہ کتب خانہ درگاہ شاہ ابوالخیر، دہلی	دہم	۶۸۰ تا ۶۸۷
۳۰	سرورق مکتوبات معصومیہ جلد دوم (صفحہ اول و آخر) قلمی، مکتوبہ ۱۱۱۰ھ	مخزونہ کتب خانہ پروفیسر پیر سید نثار احمد جان سرہندی، میر پور خاص (سندھ)	دہم	۷۷۳ ۷۷۴
۳۱	الفوائد الجلیلہ فی مسلسلات ابن عقیلہ	شیخ مصطفیٰ بیگ بن علی، مکتوبہ ۱۱۴۴ھ/تحقیق ڈاکٹر محمد رضا القہوجی مطبوعہ بیروت	دہم	۷۹۸
۳۲	سرورق سوانح مولانا خالد النقشبندی	تہران	دہم	۸۰۰
۳۳	سرورق مولانا الشیخ خالد النقشبندی محمد شریف الصواف	بیت الحکمہ، دمشق ۲۰۰۰ء	دہم	
۳۴	نمونہ تحریر مولانا خالد النقشبندی		دہم	۸۰۱
۳۵	مخطوطہ مجموعہ رسائل شیخ عبدالاحد: ● — رسالہ فیض العام ● — رسالہ الجنات الثمانیہ			

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
	● — رسالہ بدایع شرایع ● — رسالہ من الآثار فی قراۃ النبی المختار ● — رسالہ برہان الجلی فی فضل الذکر الخفی ● — رسالہ اسرار الجمعہ ● — رسالہ نفی الاشارہ فی الصلوٰۃ		یازدہم	۲۷۴
۳۶	مخطوطہ رسالہ وثیقۃ الابرار (صفحہ اول و دوم و آخر)	مصنفہ: فقیر اللہ بن عبدالرحمٰن الحنفی القرشی الہاشمی مؤلفہ ۱۱۶۵ھ، مکتوبہ فریدالدین محمد منگریو شکارپور، سندھ عطیہ: پروفیسر نثار احمد جان سرہندی میرپورخاص، سندھ	یازدہم	۲۷۴



بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ (البقرۃ ۲:۲۵۷)

اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے

جہانِ امامِ ربّانی

کومعقد

مجدّدِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم دہم

زیرِ سرپرستی: پروفیسر ڈاکٹر محمّد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السّرور محمّد مسرور احمد

مولانا جاوید اقبال مظہری

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی

محمّد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان

١٤٢٧ھ/٢٠٠٦ء

باب نمبر ۲۶

مرقعاتِ علمی
(علمی نوادر)

(جلد۱تا۱۲)

باب نمبر ۲۶ ——— مرقعاتِ علمی (علمی نوادر)

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱	الاجلۃ الربانیہ اور الاشارات السنیہ (ایک تعارف)	ڈاکٹر محمد ممتاز احمد سدیدی	پنجم	۳۳۱
۲	المکتوبات المجددیہ		ہفتم	۴۸۷
۳	دراسۃ تحلیلیہ ونقدیہ لمکتوبات		ہفتم	۲۹۶، ۴۹۰
۴	مکتوبات امام ربانی دفتر		ہفتم	۴۸۸، ۴۸۹
۵	Analytical Indexes		ہفتم	۴۹۱
۶	کنز الہدایات	خواجہ محمد باقر	ہشتم	۵۰۴
۷	کنز الہدایات	خواجہ محمد باقر	ہشتم	۵۰۵
۸	مولانا الشیخ خالد النقشبندی (حیاۃ، منہجہ، آثارہ)	محمد شویف الصواف	ہشتم	۵۰۷
۹	تہذیب المواہب السرہندیہ		ہفتم	۴۹۲
۱۰	لوائح خانقاہ مظہریہ (مکتوبات مدرسہ دیر)	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	نہم	۱۸
۱۱	مقاصد السالکین	خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی	نہم	۲۶
۱۲	جامع الاصول	ضیاء الدین احمد بن مصطفیٰ-	نہم	۲۸
۱۳	شیخ سرہند	جمیل اطہر سرہندی	نہم	۵۸
۱۴	الجنات الثمانیہ (سوانح مجدد پر ایک نادر عربی مخطوطہ) (تعارف)	پروفیسر عبدالباری، علی گڑھ	نہم	۵۹
۱۵	مجدد الف ثانی، کردار وافکار	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	نہم	۷۲
۱۶	رسائل مجدد الف ثانی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	نہم	۸۰
۱۷	ملفوظات نقشبندیہ	محمد صادق قصوری	نہم	۹۶
۱۸	مکتوبات شیخ عبدالحق بنام حضرت مجدد الف ثانی		نہم	۴۳۶

مرقع علمی: اکابر مجددیہ

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۹	سرورق کلیات باقی باللہ	مولانا ابوالحسن زید فاروقی، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی	دہم	۵۷۱
۲۰	سرورق: احوال وسخنان خواجہ عبیداللہ احرار میر عبدالاول نیشاپوری	تصحیح وتعلیقات: عارف نوشاہی	دہم	۵۷۲
۲۱	سرورق: شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ مع تعلیقات وحواشی حضرت مجدد الف ثانی	کراچی ایڈیشن/سید زوار حسین شاہ	دہم	۵۷۳
۲۲	سرورق: شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ مع تعلیقات وحواشی حضرت مجدد الف ثانی	لاہور ایڈیشن/ترتیب جدید	دہم	۵۷۴
۲۳	سرورق: کشف الغین شرح الرباعیتین	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)	دہم	۵۷۵
۲۴	ستۃ ضروریہ	(چھے رسالہ کا مجموعہ)	دہم	۵۷۶

مرقع علمی: امام ربانی کی تصانیف

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۲۵	اشعار جالی شریف	مکتوبہ حضرت مجدد الف ثانی مخزونہ مدینہ منورہ	دہم	۵۸۱
۲۶	مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، خواجہ محمد سعید، خواجہ سیف الدین		دہم	۵۸۵
۲۷	سرورق: مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی (جلد دوم: نور الخلائق)	دہلی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء	دہم	۶۰۹، ۶۱۰
۲۸	سرورق: مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی (جلد اول: در المعرفت)	دہلی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء	دہم	۶۱۱، ۱۲

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۲۹	مکتوبات شریف حصہ اول (سرورق: دُرالمعرفت)	مطبوعہ مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۲۸ھ	دہم	۶۱۳
۳۰	سرورق: مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی (جلد اول: درالمعرفت)	امرتسر ۱۹۱۰ء	دہم	۶۱۴ تا ۶۱۷
۳۱	سرورق الدرر المکنونات (ترجمہ عربی مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی) (صفحہ نمبر ۲، ۳، ۱۳۹، ۱۸۶)	ہر سہ مجلدات معربہ محمد مراد منزلوی، مکہ معظمہ	دہم	۶۱۸ تا ۶۲۱
۳۲	اسرار المکنونات النفیسہ (جلد سوم و صفحہ ۱۸۷، خاتمۃ الطبع)		دہم	
۳۳	سرورق المکتوبات الربانیہ (ترجمہ وتخریج مکتوبات امام ربانی) (جز اوّل، ثانی، ثالث)	ترجمہ محمد مراد منزلوی تخریج: مصطفیٰ حنین عبدالہادی مطبوعہ بیروت ۱۴۲۴ھ/۲۰۰۴ء	دہم	۶۲۲ تا ۶۲۴
۳۴	سرورق ترجمہ مکتوبات امام ربانی (قدیم وجدید ـــ ہر سہ مجلدات)	قاضی عالم الدین نقشبندی، لاہور	دہم	۶۲۵ تا ۶۳۰
۳۵	سرورق ترجمہ مکتوبات امام ربانی (ہر سہ مجلدات)	سید زوار حسین شاہ، کراچی	دہم	۶۳۱ تا ۶۳۴
۳۶	سرورق درِّ لاثانی (خلاصہ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی) (ہر سہ مجلدات)	ملخصہ محمد ہدایت علی نقشبندی حیدرآباد، سندھ	دہم	۶۳۵

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۳۷	سرورق تجلیاتِ ربّانی (ترجمہ وتلخیص مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی)	نسیم احمد فریدی امروہوی، موسیٰ زئی	دہم	۶۳۶
۳۸	سرورق منتخبات مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی	استانبول (ترکی)	دہم	۶۳۷
۳۹	سرورق انتخاب مکتوبات شیخ احمد سرہندی	ڈاکٹر فضل الرحمٰن، کراچی	دہم	۶۳۸
۴۰	سرورق الشذرات الذھبیہ من المکتوبات المجددیہ	معربہ شیخ محمد مراد مکی، اسلام آباد	دہم	۶۳۹
۴۱	سرورق ارشادات، از: مکتوبات شریفہ امام ربانی	موسسۃ الافکار المجددیۃ العالمیہ پاکستان	دہم	۶۴۰
۴۲	سرورق فہارس تحلیلی ہشتگانہ مکتوبات احمد سرہندی	ڈاکٹر آرتھر بیولر، لاہور	دہم	۶۴۱
۴۳	سرورق ومقدمہ شرح مکتوبات قدسی آیات (حصہ اول: سرورق ومقدمہ، صفحہ ۱۸۔۲۵)	شارح: علامہ نصر اللہ، ہتکی کراچی	دہم	۶۴۲
۴۴	سرورق معارف مکتوبات امام ربانی	محمد نعیم اللہ خاں خیالی شاہ ابوالخیر اکیڈمی، دہلی ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء	دہم	۶۴۳
۴۵	سرورق البینات شرح مکتوبات (جلد اول)	ابوالبیان محمد سعید احمد مجددی گوجرانوالہ	دہم	۶۴۴، ۵

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۴۶	سرورق مکتوبات امام ربانی (ترجمہ وشرح انگریزی۔ جلد اول)	شیخ محمد وجیہہ الدین نقشبندی لاہور	دہم	۶۴۶
۴۷	سرورق المجموعۃ السنیۃ	مولانا ابوالحسن زید فاروقی، لاہور	دہم	۶۴۷
۴۸	سرورق رسائل مجددیہ	لاہور	دہم	۶۴۸
۴۹	سرورق رسائل تہلیلیہ	امام ربانی مجدد الف ثانی، لاہور	دہم	۶۴۹
۵۰	سرورق معارف لدنیہ	امام ربانی مجدد الف ثانی، لاہور	دہم	۶۵۰،۱
۵۱	سرورق اثبات النبوۃ	امام ربانی مجدد الف ثانی، لاہور	دہم	۶۵۲
۵۲	سرورق مکاشفات غیبیہ	امام ربانی مجدد الف ثانی، لاہور	دہم	۶۵۳
۵۳	سرورق مبداء ومعاد	امام ربانی مجدد الف ثانی، لاہور	دہم	۶۵۴،۵،۶
۵۴	سرورق معارف لدنیہ	مدینہ پریس، بجنور ۱۳۵۱ھ	دہم	
	مرقع علمی:	**امام ربانی پر تصانیف**		
۵۵	سرورق بشائر الحسنات فی الصلوٰۃ والسلام علی سید الکائنات	مرتبہ: مولانا عبدالسلام صدیقی، جہلم	دہم	۶۶۲
۵۶	سرورق ہدایۃ الطالبین	محمد صالح کولابی نقشبندی نول کشور گیس پرنٹنگ پریس، لاہور	دہم	۶۸۸
۵۷	سرورق زبدۃ المقامات	خواجہ محمد ہاشم کشمی، سیالکوٹ	دہم	۶۸۹
۵۸	سرورق حضرات القدس	خواجہ بدرالدین سرہندی، سیالکوٹ	دہم	۶۹۰
۵۹	سرورق وصال احمدی	خواجہ بدرالدین سرہندی، سیالکوٹ	دہم	۶۹۱

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
٦٠	اوراق شیخ آدم بنوری/ خلاصۃ المعارف فی اسرار العقائد	مخطوطہ انڈیا آفس لائبریری، لندن مکتوبہ ۱۰۳۷ھ/ ۱۶۲۷ء	دہم	۶۹۲ تا ۶۹۵
٦١	اوراق بدرالدین سرہندی/ مجمع الاولیاء	مخطوطہ انڈیا آفس لائبریری، لندن مکتوبہ ۱۰۴۳ھ/ ۱۶۳۳ء	دہم	۶۹۶ تا ۶۹۸
٦٢	اوراق محمد امین بدخشی/ مناقب الحضرات	مخطوطہ برٹش میوزیم، لندن مکتوبہ ۱۱۴۰ھ/ ۱۷۳۱ء	دہم	۶۹۹ تا ۷۰۲
٦٣	سرورق مناقب الحضرات	شیخ محمد امین بدخشی	دہم	۷۰۳
٦٤	سرورق عمدۃ المقامات	شاہ محمد فضل اللہ، لاہور	دہم	۷۰۴
[illegible]	سرورق سوانح عمری امام ربانی مجدد الف ثانی	مولانا شیخ قادر بخش، مطبع منشی فخر الدین، لاہور ۱۳۱۶ھ	دہم	۷۰۵
٦٦	سرورق احوال حضرت مجدد الف ثانی	نظام الدین مجددی توکلی، لاہور	دہم	۷۰۶
٦٧	سرورق حضرت مجدد الف ثانی کے سیاسی مکتوبات	آباد شاہ پوری، مکتبہ چراغ اسلام، لاہور	دہم	۷۰۷
٦٨	سرورق مجموعہ حالات و مقامات امام ربانی مجدد الف ثانی	مولانا محمد عبد الاحد، مطبوعہ دہلی	دہم	۷۰۸
٦٩	سرورق ارتحال مجد [illegible] سال احمدی	منشی محمد اعزاز الدین احمد، مکتبہ امجد علی، مراد آباد	دہم	۷۰۹
٧٠	سرورق ہدیہ احمدیہ	ابوالخیر مکی، کانپور ۱۳۱۳ھ	دہم	۷۱۰
٧١	سرورق روضۃ القیومیہ	کمال الدین محمد احسان، سول اسٹیم پریس، لاہور	دہم	۷۱۱ ۷۱۲

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۷۲	سرورق سوانح مجدد الف ثانی سرہندی	محمد احسان عباس، ہمدرد کامریڈ پریس، دہلی	دہم	۷۱۳
۷۳	سرورق آفتاب شرف	شاہ محمد ابواشرف مجددی) مطبوعہ کلکتہ ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء	دہم	۷۱۴
۷۴	سرورق کنز الہدایات	مفتی محمد باقر بن شرف الدین، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۲ء	دہم	۷۱۵
۷۵	سرورق حضرت مجدد الف ثانی — ایک تحقیقی جائزہ	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کراچی ۱۹۶۵ء	دہم	۷۱۶
۷۶	حضرت مجدد کا تصور توحید (انگریزی) (مقالہ ڈاکٹریٹ)	ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، بھارت	دہم	۷۱۷
۷۷	سرورق تذکرہ مجدد الف ثانی	محمد منظور نعمانی، کراچی	دہم	۷۱۸
۷۸	سرورق مکتوبات امام ربانی کی دینی و معاشرتی اہمیت	ڈاکٹر سراج احمد، کراچی (مقالہ ڈاکٹریٹ)	دہم	۷۱۹
۷۹	سرورق مکتوبات مجدد الف ثانی — تخریج احادیث (غیر مطبوعہ)	ڈاکٹر بابر بیگ مطالی (مقالہ ڈاکٹریٹ)	دہم	۷۲۰ ۷۲۱
۸۰	سرورق مکتوبات امام ربانی کی تاریخی تعیین (غیر مطبوعہ)	ڈاکٹر محمد انصار خاں (مقالہ ڈاکٹریٹ)	دہم	۷۲۲
۸۱	سرورق حضرت مجدد الف ثانی کی تفسیری اور فقہی خدمات	ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس۔ (مقالہ ڈاکٹریٹ)	دہم	۷۲۳
۸۲	سرورق ڈاکٹر محمد اقبال اور حضرت مجدد الف ثانی — افکار و نظریات	ڈاکٹر بابر بیگ مطالی (غیر مطبوعہ)	دہم	۷۲۴ تا ۷۲۷

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۸۳	سرورق حیات مجدد	پروفیسر محمد فرمان، لاہور	دہم	۷۲۸
۸۴	سرورق سیرت مجدد الف ثانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی	دہم	۷۲۹
۸۵	سرورق حضرت مجدد الف ثانی — حیات، افکار و خدمات	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی	دہم	۷۳۰
۸۶	سرورق مجدد ہزارہ دوم	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی	دہم	۷۳۱
۸۷	سرورق مقدمہ تجلیات امام ربانی	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، لاہور	دہم	۷۳۲
۸۸	سرورق حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی	دہم	۷۳۳
۸۹	سرورق صراط مستقیم	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، کراچی	دہم	۷۳۴
۹۰	سرورق حضرت مجدد فقہ کے اُفق پر	محمد معصوم، کوٹلی آزاد کشمیر	دہم	۷۳۵
۹۱	سرورق جواہر مجددیہ	خواجہ احمد حسین خاں، کراچی	دہم	۷۳۶
۹۲	سرورق تجلیات امام ربانی	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری	دہم	۷۳۷
۹۳	سرورق عقیدہ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی	پروفیسر سید شبیر حسین زاہد	دہم	۷۳۸
۹۴	سرورق حضور امام ربانی کا لقب مجدد الف ثانی	علامہ محمد فیض احمد اویسی، سیالکوٹ	دہم	۷۳۹
۹۵	سرورق حضرت مجدد الف ثانی کی شانِ قیومیت	علامہ محمد فیض احمد اویسی، سیالکوٹ	دہم	۷۴۰
۹۶	سرورق حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت و قیومیت	پروفیسر محمد حسین آسی، شکر گڑھ	دہم	۷۴۱
۹۷	سرورق سلوک مجددیہ	سید عبداللہ محدث دکن، لاہور	دہم	۷۴۲

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۹۸	سرورق حضرت مجدد اور ان کے ناقدین	مولانا ابوالحسن زید فاروقی، استانبول (ترکی)	دہم	۷۴۳
۹۹	سرورق حضرت امام اعظم حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں	علامہ عبدالحکیم اختر شاہجہانپوری	دہم	۷۴۴
۱۰۰	سرورق حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی، لاہور	دہم	۷۴۵
۱۰۱	سرورق حضرت مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی	پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، کراچی	دہم	۷۴۶
۱۰۲	سرورق امام احمد رضا اور حضرات نقشبندیہ	ابوالسرور محمد مسرور احمد، کراچی		۷۴۷
۱۰۳	سرورق ارشادات حضرت مجدد الف ثانی	ابوالبرکات سید احمد قادری، کراچی	دہم	۷۴۸
۱۰۴	سرورق ارشادات حضرت مجدد الف ثانی	صاحبزادہ جمیل احمد شرقپوری، شرقپور	دہم	۷۴۹
۱۰۵	سرورق ارشادات حضرت مجدد الف ثانی (انتخاب مکتوبات امام ربانی)	محمود اشرف عثمانی، لاہور	دہم	۷۵۰
۱۰۶	سرورق فرمودات حضرت مجدد الف ثانی	لاہور	دہم	۷۵۱
۱۰۷	سرورق مسلک امام ربانی	مولانا محمد سعید احمد نقشبندی	دہم	۷۵۲
۱۰۸	سرورق تائید اہل سنت	پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان	دہم	۷۵۳
۱۰۹	سرورق امام ربانی اور اتباع رسول گرامی	ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر حیدر آباد سندھ	دہم	۷۵۴
۱۱۰	سرورق لمعات امام ربانی	علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، لاہور	دہم	۷۵۵

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۱۱	سرورق حضرت مجدد الف ثانی کی دینی وملی خدمات	صوفی غلام سرور نقشبندی، لاہور	دہم	۷۵۶
۱۱۲	سرورق حیات وتعلیمات مجدد الف ثانی	سرفراز احمد بھٹی، لاہور	دہم	۷۵۷
۱۱۳	سرورق یادگار مجدد الف ثانی	ابوالسرور محمد مسرور احمد، کراچی	دہم	۷۵۸
۱۱۴	سرورق تاجدار سرہند	معراج الدین مسعودی، کراچی	دہم	۷۵۹
۱۱۵	سرورق مجدد الف ثانی، کردار وافکار	پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی	دہم	
۱۱۶	سرورق شیخ سرہند	جمیل اطہر سرہندی، لاہور	دہم	
۱۱۷	سرورق آفتاب ولایت	مولانا جاوید اقبال مظہری، کراچی	دہم	۷۶۰
۱۱۸	وصال حضرت مجدد الف ثانی	مولانا جاوید اقبال مظہری، کراچی	دہم	۷۶۱
۱۱۹	سرورق جہاں نما	ڈاکٹر عدنان خورشید، کراچی	دہم	۷۶۲
۱۲۰	سرورق امام ربانی	اقبال احمد اختر القادری، کراچی	دہم	۷۶۳
۱۲۱	سرورق امام ربانی کی تحریک اصلاح تصوف	اقبال احمد اختر القادری، کراچی	دہم	۷۶۴
۱۲۲	سرورق ایک انمول ہیرا، سیرت حضرت عالی امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی	صوفی نثار الحق سیفی نقشبندی مجددی، کراچی ۲۰۰۴ء	دہم	۷۶۵
۱۲۳	جواہر علویہ	محمد اشرف احمد نقشبندی مجددی نول کشور گیس پرنٹنگ پریس۔ لاہور	دہم	۷۶۶
۱۲۴	سرورق انساب الانجاب	محمد حسن جان مجددی، لاہور	دہم	۷۶۷
۱۲۵	سرورق حضرت مجدد الف ثانی	سید زوار حسین شاہ، کراچی	دہم	۷۶۸

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۲۶	افکار حضرت مجدد الف ثانی اور عصر حاضر	شیر ربانی پبلیکیشنز، لاہور	دہم	۷۶۹

صاحبزادگان وخلفاء اور دیگر مشایخ نقشبندیہ مجددیہ کی تصانیف

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۲۷	سرورق مکتوباتِ معصومیہ (ہر سہ مجلدات)	خواجہ محمد معصوم/ سیدزوار حسین شاہ، کراچی	دہم	۷۷۵ تا ۷۷۷
۱۲۸	سرورق مقاماتِ معصومی (چہار مجلدات)	پروفیسر محمد اقبال مجددی، لاہور	دہم	۷۷۸ تا ۷۸۱
۱۲۹	سرورق مقاماتِ معصومی (انگریزی ترجمہ)	پروفیسر محمد اقبال مجددی، لاہور	دہم	۷۸۲ تا ۷۸۵
۱۳۰	سرورق اذکار نبویہ (اردو ترجمہ)	خواجہ محمد معصوم، سیالکوٹ	دہم	۷۸۶
۱۳۱	سرورق حسنات الحرمین	پروفیسر محمد اقبال، موسیٰ زئی	دہم	۷۸۷
۱۳۲	سرورق انوار معصومیہ	سیدزوار حسین شاہ، کراچی	دہم	۷۸۸
۱۳۳	سرورق گلشن وحدت	خواجہ عبدالاحد بن خواجہ محمد سعید	دہم	۷۸۹
۱۳۴	سرورق مکتوبات شریفہ خواجہ سیف الدین بن خواجہ معصوم	کراچی	دہم	۷۹۰
۱۳۵	سرورق جواہر معصومیہ	خواجہ احمد حسین، مشہور عالم پریس، لاہور	دہم	۷۹۱
۱۳۶	سرورق سوانح شیخ طاہر بندگی	خالد مجددی سلطانی، لاہور	دہم	۷۹۲

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے متعلق دیگر تصانیف

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۳۷	سرورق مقامات مظہری	شاہ غلام علی دہلوی/ ترجمہ وتعلیق: پروفیسر محمد اقبال، لاہور	دہم	۷۹۶

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۳۸	سرورق دار المعارف (ملفوظات شاہ غلام علی دہلوی)	مرتبہ: شاہ رؤف احمد مجددی، لاہور	دہم	۷۹۷
۱۳۹	سرورق الایمان والاسلام (صفحہ ۱۰، ۶۴)	شیخ ضیاء الدین خالد البغدادی، استانبول (ترکی)	دہم	۸۰۳
۱۴۰	سرورق سل الحسام الہندی لنصرۃ مولانا خالد النقشبندی (صفحہ ۳۲۰، ۳۲۵)	علامہ ابن عابدین شامی، استانبول (ترکی)	دہم	۸۰۶ تا ۸۱۳
۱۴۱	سرورق مکتوبات شاہ فقیر اللہ علوی	مطبوعہ لاہور	دہم	۸۱۴
۱۴۲	سرورق باقیات مظہری	محمد عبد الستار طاہر مسعودی	دہم	۸۱۵
۱۴۳	سرورق الحدائق الوردیہ فی حقائق اجلاء النقشبندیہ	(تالیف مابعد ۱۳۰۶ھ) دمشق عبد الحمید بن محمد الخانی الخالدی النقشبندی	دہم	۸۱۶
۱۴۴	سرورق سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر	محمد خلیل المرادی/تحقیق: اکرم حسن الحلبی، بیروت	دہم	۸۱۸
۱۴۵	التصوف الاسلامی الطریقۃ النقشبندیہ	الدکتور محمد احمد درنیقہ	دہم	۸۱۹
۱۴۶	واعلامہا الاجابۃ الربانیہ	نجم الدین محمد امین الکردی	دہم	۸۲۰
۱۴۷	سرورق مشائخ نقشبندیہ مجددیہ	محمد حسن نقشبندی مجددی، لاہور	دہم	۸۲۲
۱۴۸	سرورق سندھ کے صوفیائے نقشبندیہ (دو مجلدات)	ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر، حیدرآباد سندھ (مقالہ ڈاکٹریٹ)	دہم	۸۲۳ ۸۲۴
۱۴۹	تاریخ مشائخ نقشبندیہ (جماعتیہ)	محمد صادق قصوری، لاہور	دہم	۸۲۵
۱۵۰	سرورق انارۃ الاشارہ (۱۳۱۰ھ)	مطبع محمدی، لاہور	دہم	۸۲۶

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۵۱	سرورق مجموعہ رسالہ خواجہ علی متقی و رسالہ ابوالمکارم وغیرہ	مطبع خادم الاسلام، دہلی	دہم	۸۲۶
۱۵۲	سرورق مشیدات دمشق ذوات الاضرحۃ وعناصرھا الجمالیہ	ڈاکٹر قتیبہ الشہابی، دمشق ۱۹۹۰ء	دہم	۸۲۸
۱۵۳	سرورق مسئلۃ الاشارۃ بالسبابۃ فی التشہد فی الصلوٰۃ	مؤلفہ سید احمد علی شاہ	دہم	۸۲۹
۱۵۴	سرورق کتاب البہجۃ السنیۃ فی آداب الطریقۃ العلیۃ الخالدیۃ النقشبندیہ	مؤلفہ شیخ محمد بن عبداللہ الخانی الخالدی النقشبندی	دہم	۸۳۰
۱۵۵	سرورق رشحات عین الحیات	شیخ علی بن حسین الواعظ الہردی/ ترجمہ: الشیخ محمد مراد بن عبدالقزانی، مکتبۃ الاسلامیہ دیاربکر (ترکی)	دہم	۸۳۱
۱۵۶	السعادۃ الابدیہ فیما جاء بہ النقشبندیہ	عبدالحمید بن محمد الخانی الخالدی النقشبندی	دہم	۸۳۲
۱۵۷	سرورق الحدیقۃ الندیہ فی الطریقۃ النقشبندیہ	محمد بن سلیمان البغدادی حنفی النقشبندی قاہرہ ۱۳۱۳ھ۔ استانبول ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء)	دہم	
۱۵۸	سرورق الاشارۃ السنیہ لسالکی الطریقۃ النقشبندیہ	ابوزہرہ اویس بن عبداللہ الحسینی، دارالمصطفیٰ، مصر ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء	دہم	۸۳۳
۱۵۹	سرورق تتمہ دیوان فارسی مولانا خالد نقشبندی	بیروت ۱۹۵۵ء	دہم	۸۳۶

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۶۰	Sufi Heirs of the Prophet	آرتھر ایف۔ بیولر یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا	دہم	۸۳۷
۱۶۱	Islam in Indian Sub-Continent	این میری شمل، لیڈن ۱۹۸۰ء	دہم	۸۸۳
۱۶۲	The Influence of Shaykh Ahmed Sirhindi on Dr.Muhammad Iqbal	پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کراچی، ۱۹۹۶ء	دہم	۸۳۹
۱۶۳	The Naqshbandi's	سردار علی احمد خان، لاہور	دہم	۸۴۰
۱۶۴	Hazrat Mujaddid & His critics	ابوالحسن زید فاروقی، لاہور	دہم	۸۴۱
۱۶۵	نزھۃ الخواطر وبہجۃ المسامع والنواظر المجلد الثانی	ازعبدالحیٔ، دارابن حزم، بیروت ۱۹۹۹ء	یازدہم	۲۶۶
۱۶۶	رجال الفکر والدعوۃ فی الاسلام، الامام السرہندی، (الجزء الثالث ۱۹۹۸ء)	ازابوالحسن علی ندوی، دارابن کثیر، دمشق	یازدہم	۲۶۶
	مرقع جرائد نقشبندیہ			
۱۶۷	ماہنامہ نور اسلام، شرقپور شریف		دہم	۸۴۵
۱۶۸	مجلّہ المظہر، کراچی		دہم	۸۴۶
۱۶۹	ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام، گوجرانوالہ		دہم	۸۴۷
۱۷۰	مجلّہ المقصود، کراچی		دہم	۸۴۸
۱۷۱	ماہنامہ انوار لاثانی، لاہور		دہم	۸۴۹
۱۷۲	ماہنامہ فیض، شیرگڑھ		دہم	۸۵۰
۱۷۳	ماہنامہ مجلّہ الحقیقہ، شکرگڑھ		دہم	۸۵۱

شمار	نام کتاب	مصنف/حوالہ	جلد	صفحہ
۱۷۴	Sher-e-Rabbani Digest(Quarterly)Lahore		دہم	۸۵۲
۱۷۵	Sufi Illuminations,Boston(U.S.A)		دہم	۸۵۳
۱۷۶	مجلّہ رکن الاسلام، حیدرآباد سندھ		دہم	۸۵۴
۱۷۷	ماہنامہ مجلّہ فیضان کرم، کراچی		دہم	۸۵۵
۱۷۸	ماہنامہ نور العرفان، لاہور		دہم	۸۵۶
۱۷۹	ماہنامہ الخیر، پشاور		دہم	۸۵۷
۱۸۰	ماہنامہ سیدھا راستہ، لاہور		دہم	۸۵۸
۱۸۱	ماہنامہ نوائے اسلام، پاکپتن شریف		دہم	۸۵۹
۱۸۲	ماہنامہ القول السدید، لاہور		دہم	۸۶۰
۱۸۳	پندرہ روزہ آواز نقشبند، شیخوپورہ		دہم	۸۶۱
۱۸۴	البعث ڈائجسٹ، لاہور		دہم	۸۶۲



محمدؐ، چار دفعہ

باب نمبر ۲۷

مرقعاتِ عمومی

(مزارات و عمارات)

(جلد ۱ تا ۱۲)

باب نمبر ۲۷ — مرقعاتِ عمومی (مزارات وعمارات)

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱	گنبد خضراء	مدینہ منورہ	اول	۶
۲	شہر سرہند	مشرقی پنجاب	اول	۱۵۰
۳	مرکزی دروازہ درگاہ شریف امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	اول	۱۹۹
۴	مزارات حضرات خواجگان نقشبند علیہم الرحمۃ	قصر عارفاں، بخارا	اول	۲۲۲
۵	قبر انور امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	اول	۲۶۸
۶	شہر سرہند	مشرقی پنجاب	اول	۳۸۶
۷	خانقاہ عالیہ مجددیہ کے حجرے	سرہند شریف	اول	۳۸۸
۸	مزار مبارک خواجہ عبدالاحد قادری چشتی والد ماجد حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف (بستی پٹھاناں)	اول	۴۵۶
۹	مزار مبارک خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ	خرقان	اول	۴۶۷
۱۰	مقبرہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمۃ	قصر عارفاں، بخارا	اول	۴۶۸
۱۱	جامع مسجد خواجہ بہاء الدین نقشبند کا مرکزی دروازہ	قصر عارفاں، بخارا	اول	۴۶۹
۱۲	جامع مسجد خواجہ بہاء الدین نقشبند کا اندرونی منظر	قصر عارفاں، بخارا	اول	۴۷۰
۱۳	جامع مسجد خواجہ بہاء الدین نقشبند کا عام فضائی منظر	قصر عارفاں، بخارا	اول	۴۷۱
۱۴	مزار مبارک خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ	دہلی	اول	۴۷۲
۱۵	مرکزی دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ	سرہند شریف	اول	۴۷۳
۱۶	خانقاہ عالیہ مجددیہ	سرہند شریف	اول	۴۷۴

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱۷	روضہ مبارک حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	اول	۴۷۵
۱۸	صدر دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ	سرہند شریف	دوم	۷۷۱
۱۹	روضہ مبارک حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور مسجد شریف	سرہند شریف	دوم	۷۷۲
۲۰	مزار مبارک حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	دوم	۷۷۳
۲۱	مسجد معصومیہ (تعمیر کردہ خواجہ محمد عبید اللہ فرزند سوم خواجہ محمد معصوم علیہما الرحمہ)	سرہند شریف	دوم	۷۷۴
۲۲	امرتسر روڈ — سرہند شریف کے قریب سنگ میل		سوم	۶۱۳
۲۳	روضہ مبارک حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی نو تعمیر شدہ عمارت	سرہند شریف	سوم	۶۱۵
۲۴	روضہ مبارک حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اور مسجد شریف کا بیرونی منظر	سرہند شریف	سوم	۶۱۷
۲۵	قومی عجائب گھر، لاہور	لاہور	سوم	۶۱۹
۲۶	قلعہ گوالیار	گوالیار	چہارم	۹۹
۲۷	قلعہ گوالیار	گوالیار	چہارم	۱۵۱
۲۸	قلعہ گوالیار	گوالیار	چہارم	۱۵۳
۲۹	مقبرہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ	اورنگ آباد	چہارم	۳۹۸
۳۰	مرکزی دروازہ مقبرہ شریف خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۴۶۴
۳۱	قبر انور خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۴۶۵

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۳۲	مقبرہ شریف خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۴۶۶
۳۳	مقبرہ شریف شیخ سیف الدین علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۴۶۷
۳۴	مزار پر انوار خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۴۶۸
۳۵	قبر شہزادی روشن آراء بیگم	دہلی	چہارم	۴۶۹
۳۶	قبر شہزادی روشن آراء بیگم	دہلی	چہارم	۴۷۰
۳۷	مزار مبارک خواجہ محمد معصوم وفرزندان گرامی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۶۳۰
۳۸	مزار مبارک حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۶۳۱
۳۹	مزار مبارک خواجہ محمد نقشبند ثانی فرزند دوم خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۶۳۲
۴۰	مزار مبارک خواجہ محمد زبیر نبیرہ خواجہ محمد نقشبند ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	چہارم	۶۳۳
۴۱	مزار مبارک خواجہ سیف الدین نبیرہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا ایک منظر	سرہند شریف	چہارم	۶۳۴
۴۲	مکتوبات شریف قلمی امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	شیخوپورہ	پنجم	۳۰
۴۳	مزار ڈاکٹر محمد اقبال	لاہور	پنجم	۵۱۸
۴۴	روضہ مبارک حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ	بغداد شریف	پنجم	۵۲۰
۴۵	صدر دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ	سرہند شریف	پنجم	۵۸۵

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۴۶	مسجد شریف وروضہ شریف حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	پنجم	۵۸۶
۴۷	روضہ شریف خواجہ محمد صدیق نبیرہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	پنجم	۵۸۷
۴۸	مزار مبارک خواجہ محمد صادق وخواجہ محمد سعید (فرزند گرامی) اُمِ کلثوم (صاحبزادی حضرت مجدد الف ثانی علیہم الرحمہ)	سرہند شریف	پنجم	۵۸۸
۴۹	روضہ شریف شیخ خالد کردی نقشبندی علیہ الرحمۃ	دمشق، شام	ششم	۲۸
۵۰	مقبرہ مرادی کا گول گنبد	دمشق	ششم	۱۰۰
۵۱	خانقاہ مرادی کا جنوبی دروازہ	دمشق	ششم	۱۰۱
۵۲	مقبرہ مرادی کے اندر تین مزارات	دمشق	ششم	۱۰۲
۵۳	مقبرہ مرادی کا کتبہ	دمشق	ششم	۱۰۳
۵۴	مدرسہ مرادیہ کا غربی دروازہ	دمشق	ششم	۱۰۴
۵۵	مکتوب شریف شیخ خالد کردی نقشبندی علیہ الرحمۃ		ششم	۱۷۲
۵۶	مزار شاہ افغانستان (احاطہ روضہ شریف)	سرہند شریف	ششم	۱۷۴
۵۷	شاہانِ افغانستان کے مزارات (احاطہ روضہ شریف)	سرہند شریف	ششم	۲۲۰
۵۹	مزار پُر انوار سید نور محمد بدایونی علیہ الرحمۃ	دہلی	ششم	۲۷۸
۶۰	مزار پُر انوار سید نور محمد بدایونی علیہ الرحمۃ	دہلی	ششم	۲۷۹
۶۱	خانقاہ مظہریہ	دہلی	ششم	۲۸۰

شمار	نام عمارت و مزار	مقام	جلد	صفحہ
۶۲	خانقاہ مظہریہ	دہلی	ششم	۲۸۱
۶۳	مزارات: مرزا مظہر جانِ جاناں، شاہ غلام علی، شاہ ابوسعید، شاہ ابوالخیر علیہم الرحمہ	دہلی	ششم	۲۸۲
۶۴	مزار مبارک مرزا مظہر جانِ جاناں علیہ الرحمۃ	دہلی	ششم	۲۸۴
۶۵	مسجد شریف خانقاہ مظہریہ	دہلی	ششم	۲۸۵
۶۶	مسجد حضرت شاہ غلام علی عبداللہ دہلوی	دہلی	ششم	۲۸۷
۶۷	مزار شریف حضرت شاہ ابو اسعد سالم مجددی	کوئٹہ	ششم	۵۹۰
۶۸	مقبوضہ کشمیر		ششم	[illegible]
۶۹	روضہ مبارک حضرت زندہ پیر گھمکول شریف	صوبہ سرحد	ششم	۸۰۷
۷۰	آخری آرامگاہ حضرت زندہ پیر گھمکول شریف	صوبہ سرحد	ششم	۸۰۸
۷۱	مزار مبارک حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ	پانی پت	ہشتم	۵۰۶
۷۲	مزار شریف مولانا شیخ خالد النقشبندی		ہشتم	۵۰۷
۷۳	دربار عالیہ گھمکول شریف کی خوبصورت جامع مسجد		یازدہم	۲۷۸
۷۴	مزار شریف حضرت شاہ سید ابوالسعد سالم مجددی علیہ الرحمۃ	سریاب، کوئٹہ	یازدہم	۳۶۴

مرقع مقامات مقدسہ:

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱	بیت اللہ شریف، مسجد حرام	مکہ معظمہ	نورعلیٰ نور	۴۹
۲	بیت اللہ شریف مسجد حرام کی جالیوں سے	مکہ معظمہ	نورعلیٰ نور	۵۰
۳	گنبد خضراء	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۱
۴	مسجد نبوی شریف اور گنبد خضراء	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۲
۵	مسجد نبوی شریف کا اندرونی منظر	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۳
۶	مسجد نبوی شریف	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۴
۷	مسجد نبوی شریف اور گنبد خضراء	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۵
۸	شہر مدینہ منورہ کا فضائی منظر	مدینہ منورہ	نورعلیٰ نور	۵۶
۹	روضہ شریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم		نورعلیٰ نور	۵۷
۱۰	اندرونی منظر روضہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم		نورعلیٰ نور	۵۸
۱۱	روضہ مبارک سراقدس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ		نورعلیٰ نور	۵۹
۱۲	مسجد شریف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ		نورعلیٰ نور	۶۰
۱۳	بیرونی منظر مزار مبارک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا		نورعلیٰ نور	۶۱
۱۴	مزار مبارک حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ		نورعلیٰ نور	۶۲
۱۵	مسجد شریف حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ		نورعلیٰ نور	۶۳
۱۶	جامع مسجد کوفہ		نورعلیٰ نور	۶۴
۱۷	مرقد حسین بن منصور الحلاج		نورعلیٰ نور	۶۵
۱۸	مرکزی دروازہ مرقد حسین بن منصور الحلاج		نورعلیٰ نور	۶۶

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱۸	مزار مبارک ومسجد شریف سید علی ہجویری رضی اللہ عنہ	لاہور	نور علیٰ نور	٦۷
۱۹	مینارہ مزار مبارک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ	بغداد	نور علیٰ نور	٦۸
۲۰	مرکزی دروزاہ دربار حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ	بغداد	نور علیٰ نور	٦۹
۲۱	حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی جالیوں کا دروازہ	بغداد	نور علیٰ نور	۷۰
۲۲	اندرونی منظر مزار مبارک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ	بغداد	نور علیٰ نور	۷۱
۲۳	مزار پُر انوار حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ	بغداد	نور علیٰ نور	۷۲
۲۴	روضہ مبارک خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ	اجمیر شریف	نور علیٰ نور	۷۳
۲۵	دربار عالیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ	اجمیر شریف	نور علیٰ نور	۷۴
۲٦	درگاہ شریف خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ	اجمیر شریف	نور علیٰ نور	۷۵
۲۷	مرقد انور حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ		نور علیٰ نور	۷٦
۲۸	شکستہ دیوار ایوانِ کسریٰ		نور علیٰ نور	۷۷
۲۹	مزار مبارک شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ		نور علیٰ نور	۷۸
	● ——مرقع نقشبندی:			
۱	سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ	مدینہ منورہ	نور علیٰ نور	۸۱
۲	روضہ شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیرونی منظر		نور علیٰ نور	۸۲
۳	مزار شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ		نور علیٰ نور	۸۳
۴	مرقد انور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ		نور علیٰ نور	۸۴
۵	مزار مبارک حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ		نور علیٰ نور	۸۵

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۶	مزار مبارک حضرت بہاء الدین نقشبند رضی اللہ عنہ		نور علی نور	۸۶
۷	مزار مبارک حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ عنہ		نور علی نور	۸۷
۸	مزار مبارک حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ		نور علی نور	۸۸
۹	مزار مبارک حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ	دہلی	نور علی نور	۸۹
۱۰	مزار مبارک حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ	دہلی	نور علی نور	۹۰
۱۱	مزار مبارک خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ (ابن خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ)		نور علی نور	۹۱
۱۲	مزار مبارک خواجہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ (ابن خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ)		نور علی نور	۹۲

● —— **مرقع مجددی** (اول):

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱	روضہ شریف حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ	سرہند شریف	نور علی نور	۹۵
۲	مسجد شریف وروضہ شریف حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ	سرہند شریف	نور علی نور	۹۶
۳	مکتوبات شریف حضرت مجدد الف ثانی، حضرت خواجہ محمد سعید، اور شجرہ شریف مکتوبہ خواجہ سیف الدین علیہما الرحمۃ		نور علی نور	۹۷
۴	مزار پُر انوار ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ		نور علی نور	۹۸
۵	مرکزی مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ		نور علی نور	۹۹

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۶	اندرونی منظر مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری		نورعلیٰ نور	۱۰۰
۷	اندرنی منظر مسجد شریف ملا کمال الدین کشمیری		نورعلیٰ نور	۱۰۱
۸	جامع مسجد فیروز شاہ بادشاہ		نورعلیٰ نور	۱۰۲
۹	مرکزی دروازہ جامع مسجد فیروز شاہ بادشاہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۳
۱۰	مزار مبارک علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۴
۱۱	مزار مبارک علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۵
۱۲	محراب شریف مسجد عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۶
۱۳	اندرونی منظر مسجد شریف علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۷
۱۴	نوتعمیر شدہ محراب شریف مسجد علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ	سیالکوٹ	نورعلیٰ نور	۱۰۸
۱۵	گنبد شریف مزار مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۰۹
۱۶	مزار مبارک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۱۰
۱۷	مسجد خیر المنازل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۱۱
۱۸	مزار مبارک خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ		نورعلیٰ نور	۱۱۲
۱۹	مزار مبارک عبدالرحیم خانِ خاناں رحمۃ اللہ علیہ		نورعلیٰ نور	۱۱۳
۲۰	مزار مبارک عبدالرحیم خانِ خاناں رحمۃ اللہ علیہ		نورعلیٰ نور	۱۱۴
۲۱	مزار مبارک مرتضیٰ خاں شیخ فرید بخاری		نورعلیٰ نور	۱۱۵

شمار	نام عمارت و مزار	مقام	جلد	صفحہ
۲۲	مقبوضہ کشمیر		نور علیٰ نور	۱۱۶
۲۳	مقبوضہ کشمیر		نور علیٰ نور	۱۱۷
۲۴	قلعہ کانگڑہ		نور علیٰ نور	۱۱۸

● مرقع جہاں گیری:

شمار	نام عمارت و مزار	مقام	جلد	صفحہ
۱	قبر اکبر بادشاہ	سکندرا	نور علیٰ نور	۱۲۱
۲	عبادت خانہ اکبر باشاہ	فتح پور سیکری	نور علیٰ نور	۱۲۲
۳	قلعہ جہاں گیر بادشاہ	آگرہ	نور علیٰ نور	۱۲۳
۴	قلعہ جہاں گیر بادشاہ	آگرہ	نور علیٰ نور	۱۲۴
۵	مقبرہ جہاں گیر بادشاہ	لاہور	نور علیٰ نور	۱۲۵
۶	شیش محل	لاہور	نور علیٰ نور	۱۲۶
۷	دروازہ قلعہ	لاہور	نور علیٰ نور	۱۲۷
۸	لال قلعہ	دہلی	نور علیٰ نور	۱۲۸
۹	دیوان خاص لال قلعہ	دہلی	نور علیٰ نور	۱۲۹
۱۰	دیوان خاص لال قلعہ	دہلی	نور علیٰ نور	۱۳۰
۱۱	دیوان خاص لال قلعہ کا بیرونی منظر	دہلی	نور علیٰ نور	۱۳۱
۱۲	دیوان عام لال قلعہ	دہلی	نور علیٰ نور	۱۳۲
۱۳	دیوان عام لال قلعہ کا بیرونی منظر	دہلی	نور علیٰ نور	۱۳۳
۱۴	جامع مسجد شاہجہانی	دہلی	نور علیٰ نور	۱۳۴

شمار	نام عمارت و مزار	مقام	جلد	صفحہ
۱۵	تاج محل	آگرہ	نورعلیٰ نور	۱۳۵
۱۶	مزارات شاہ جہاں بادشاہ، ملکہ ممتاز محل	آگرہ	نورعلیٰ نور	۱۳۶
۱۷	موتی مسجد عالمگیری، لال قلعہ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۳۷
۱۸	جامع مسجد عالمگیری	لاہور	نورعلیٰ نور	۱۳۸

● ـــــ مرقع مجددی دوم:

شمار	نام عمارت و مزار	مقام	جلد	صفحہ
۱	مزار مبارک خواجہ محمد صادق، خواجہ محمد سعید علیہما الرحمہ	سرہند شریف	نورعلیٰ نور	۱۴۱
۲	مزار مبارک خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	نورعلیٰ نور	۱۴۲
۳	مزار مبارک خواجہ سیف الدین علیہ الرحمۃ	سرہند شریف	نورعلیٰ نور	۱۴۳
۴	مزار مبارک خواجہ میر محمد نعمان علیہ الرحمۃ	آگرہ	نورعلیٰ نور	۱۴۴
۵	مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ	لاہور	نورعلیٰ نور	۱۴۵
۶	مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ	لاہور	نورعلیٰ نور	۱۴۶
۷	مزار مبارک شیخ طاہر بندگی علیہ الرحمۃ	لاہور	نودعلیٰ نور	۱۴۷
۸	مزار مبارک شیخ نور محمد بدایونی علیہ الرحمۃ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۴۸
۹	خانقاہ مظہریہ	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۴۹
۱۰	مزارات مبارکہ مرزا مظہر جانِ جاناں، شاہ غلام علی دہلوی، شاہ ابوالخیر، شاہ ابوسعید	دہلی	نورعلیٰ نور	۱۵۰
۱۱	درگاہ شریف شیخ خالد کردی نقشبندی رحمہ اللہ	دمشق	نورعلیٰ نور	۱۵۱
۱۲	مزار پرانوار شیخ خالد کردی نقشبندی رحمہ اللہ	دمشق	نورعلیٰ نور	۱۵۲

شمار	نام عمارت ومزار	مقام	جلد	صفحہ
۱۳	مزار مبارک شیخ خالد کردی نقشبندی رحمہ اللہ	دمشق	نور علیٰ نور	۱۵۳
۱۴	کتبہ مزار مبارک شیخ خالد کردی نقشبندی رحمہ اللہ	دمشق	نور علیٰ نور	۱۵۴
۱۵	بیرونی منظر مزار مبارک شیخ خالد کردی نقشبندی رحمہ اللہ	دمشق	نور علیٰ نور	۱۵۵
۱۶	روضہ شریف امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ	بریلی شریف	نور علیٰ نور	۱۵۶
۱۷	مزار پرانوار امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ	بریلی شریف	نور علیٰ نور	۱۵۷
۱۸	مسجد جامع فتح پوری	دہلی	نور علیٰ نور	۱۵۸
۱۹	مسجد جامع فتح پوری کا ایک منظر	دہلی	نور علیٰ نور	۱۵۹
۲۰	مزار مبارک مفتی اعظم ہند شاہ محمد مظہر اللہ رحمہ اللہ	دہلی	نور علیٰ نور	۱۶۰
۲۱	مزار ڈاکٹر محمد اقبال	لاہور	نور علیٰ نور	۱۶۱
۲۲	روضہ شریف حضرت سالم ابوسعید مجددی رحمہ اللہ	کوئٹہ	نور علیٰ نور	۱۶۲
۲۳	روضہ شریف حضرت مفتی محمد محمود الوری رحمہ اللہ	حیدرآباد	نور علیٰ نور	۱۶۳
۲۴	روضہ شریف حضرت حکیم مشتاق احمد رحمہ اللہ	کراچی	نور علیٰ نور	۱۶۴

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۸۸)

اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے

جہانِ امامِ ربّانی

گوہر قلم

مجدّد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

اقلیم یازدہم

زیرِ سرپرستی : پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

مرتبین

صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد

مولانا جاوید اقبال مظہری

ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

نظرِ ثانی

محمد عالم مختار حق

امامِ ربّانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء

باب نمبر ۲۸

کتابیات

(جلد ۱۰ تا ۱۱)

باب نمبر۲۸ — کتابیات

● — نقشبندیہ مآخذ ومراجع:

نمبر شمار	موضوع	مصنف/مرتب	جلد	صفحہ
۱	یہ انگریزی مطبوعات کی فہرس ہے جو کہ درج ذیل عنوانات کے تحت مرتب کی گئی ہے: ❶General Histories اس کے تحت 47 کتابیں مذکور ہیں۔ ❷Historigraphy, Catalogues, اس عنوان کے تحت 63 کتب ورسائل مذکور ہیں۔ ❸Secondary Sources, Before Twentieth Century: اس عنوان کے تحت 16 کتب ورسائل مذکور ہیں۔ ❹Secondary Sources, Twentieth Century: اس عنوان کے تحت 20 کتب ورسائل مذکور ہیں۔	ویکا گارڈنز (مرسلہ: منیر احمد مسعودی برمنگھم، یو۔ کے)	یازدہم	۸۶۳ تا ۹۰۴

نمبرشمار	عنوان	مصنف/مرتب	جلد	صفحہ
	⑤Historically or Geographically Periodicized works, by Region Eurasia (includes China): اس عنوان کے تحت 74 کتب ورسائل مذکور ہیں۔ ⑥Turkey and the Othoman Empire (see also Balkans, Middle East) اس عنوان کے تحت 19 کتب و رسائل مذکور ہیں۔ ⑦India and Southeast Asia: اس عنوان کے تحت 34 کتب ورسائل مذکور ہیں۔ ⑧Balkans: اس عنوان کے تحت 7 کتب مذکور ہیں۔ ⑨Middle East (see also Ottoman Turkey) اس عنوان کے تحت 6 کتب مذکور ہیں۔			

نمبر شمار	موضوع	مصنف/مرتب	جلد	صفحہ
	⑩ Other: اس عنوان کے تحت 8 کتب مذکور ہیں۔ 11-Working Bibliography General Works on the Naqshbandiyya: اس عنوان کے تحت 18 کتب مذکور ہیں۔			

● اشاریہ مآخذومراجع:

۱۔	(اردو، عربی، فارسی، انگریزی) یہ اشاریہ تقریباً پانچ ہزار کے لگ بھگ کتب و رسائل پر مشتمل ہے، جن سے ''جہانِ امام ربانی'' میں محققین نے استفادہ کیا۔	صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی، صبا مسعودی، حنا مسعودی، شاہد احمد کمانڈر محمد ظفر۔	یازدہم	۳۲۷
۲۔	آئینۂ مجدد	شہزاد احمد مسعودی	یازدہم	۳۱۹



باب نمبر ۲۹

اشاریات

(جلد ۱۱)

باب نمبر ۲۹ —— اشاریات

شمار	موضوع	مرتبین	جلد	صفحہ
۱	**اشاریہ اسماء الرجال** (یہ تقریباً سات ہزار مصنفین و مؤلفین اور عوام وخواص کے ناموں کا اشاریہ ہے۔)	مولانا شجاع الرحمٰن، مولانا احمد صادق مولانا غلام نبی، پروفیسر سید مقصود علی مولانا نصیر احمد، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، بشریٰ، حنا مسعودی، صبا مسعودی، ربیعہ شاہد، سمیعہ شاہد	یازدہم	۳۹۱
۲	**اشاریہ اسماء الکتب و رسائل جہان امام ربانی** (یہ تقریباً پانچ ہزار عربی، فارسی، اردو، انگریزی، کتب ورسائل کی فہرست کا اشاریہ ہے۔)	پروفیسر قاری محمد رفیق مسعودی صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی سید زبیر حسین جیلانی، حاجی محمود حاجی امجد افضل، محمد شریف اعوان صبا مسعودی، حنا مسعودی، بشریٰ، کمانڈر محمد ظفر، شاہد احمد، محمد سجاد مدثر چوہدری، محمد عثمان، حافظ محمد سعید حافظ محمد انس، محمد اشفاق، اسامہ امجد حافظ شرافت، محمد عاطف، عامر اسلم محمد عامر، محمد ہارون، حافظ بلال ساجد	یازدہم	۶۱۷
۳	**اشاریہ اماکن جہان امام ربانی** (یہ تقریباً ڈیڑھ ہزار ملکوں، شہروں، علاقوں کا اشاریہ ہے)	محمد عاصم مسعودی، محمد سہیل، ثروت، صبا مسعودی، بشریٰ حنا مسعودی، سمعیہ شاہد، ربیعہ شاہد، کمانڈر محمد ظفر شاہد احمد	یازدہم	۷۲۳

شمار	موضوع	مرتبین	جلد	صفحہ
۴	**جامِ جم** (جہانِ تبریک وتشکر)	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم	۷۷۷
۵	**فہارس** **جہان امام ربانی** (اقلیم اول تا یازدہم)	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری	یازدہم	۸۶۳



بحضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم

بلغ العلیٰ بکمالہ
کشف الدجیٰ بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ
صلوا علیہ وآلہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام

کلام شیخ سعدی
کتبہٗ گوہر قلم

باب نمبر ۳۰

نظائر خوشنویسی

باب نمبر ۳۰ —— نظائر خوشنویسی

خطاط: صوفی خورشید عالم گوہر رقم، لاہور

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۱۴
۲	طغرٰی آیت قرآنی ربھافتقبلھا	اوّل	۵۸
۳	اللّٰہ نور السموات والارض	اوّل	۶۸
۴	علمہ الانسان	اوّل	۱۱۵
۵	نصر من اللّٰہ وفتح قریب	اوّل	۱۱۶
۶	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۱۱۷
۷	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۱۱۹
۸	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۱۲۰
۹	سبحان اللّٰہ وبحمدہٖ	اوّل	۱۲۴
۱۰	فھو اللّٰہ علٰی حسبہٗ	اوّل	۱۲۶
۱۱	الم نشرح لک صدرک	اوّل	۱۴۳
۱۲	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۴۶
۱۳	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۴۸
۱۴	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۱۴۹
۱۵	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۶۵
۱۶	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۶۶
۱۷	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۹۷
۱۸	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۱۹۸
۱۹	بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۲۰۲

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۲۰	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۲۲۱
۲۱	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۲۵۷
۲۲	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۲۶۵
۲۳	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۲۶۶
۲۴	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	اوّل	۲۶۷
۲۵	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۲۹۲
۲۶	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۳۵۲
۲۷	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۳۶۴
۲۸	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۳۷۶
۲۹	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۴۰۴
۳۰	صلی اللہ علیہ وسلم	اوّل	۴۳۴
۳۱	طغرٰی آیت قرآنی	اوّل	۴۴۰
۳۲	السلام قبل الکلام	اوّل	۴۵۴
۳۳	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	دوم	۴
۳۴	طغرٰی آیت قرآنی	دوم	۶
۳۵	طغرٰی اسم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم)	دوم	۱۷
۳۶	سبحان اللہ وبحمدہٖ	دوم	۲۰
۳۷	اسم ذات اللہ بصورت ستارہ	دوم	۲۶
۳۸	لفظ علی بصورت مربع	دوم	۳۱
۳۹	نصر من اللہ وفتح قریب	دوم	۲۹۴
۴۰	السلام قبل الکلام	دوم	۳۳۸

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۴۱	طغری آیت قرآنی	دوم	۳۹۲
۴۲	طغری آیت قرآنی	دوم	۴۰۶
۴۳	طغری آیت قرآنی	دوم	۴۲۴
۴۴	خط دیوانی میں سورہ الم نشرح	دوم	۴۳۰
۴۵	سورہ اخلاص مربع	دوم	۵۳۴
۴۶	طغری آیت قرآنی	دوم	۵۵۶
۴۷	طغری آیت قرآنی	دوم	۶۱۶
۴۸	طغری	دوم	۶۵۰
۴۹	طغری آیت قرآنی	دوم	۶۵۹
۵۰	طغری آیت قرآنی	دوم	۷۱۴
۵۱	طغری آیت قرآنی	دوم	۷۵۷
۵۲	الحمدللہ بصورت مربع	دوم	۷۸۴
۵۳	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	سوم	۴
۵۴	بلغ العلیٰ بکمالہ (رباعی)	سوم	۶
۵۵	طغری آیت قرآنی	سوم	۲۴
۵۶	طغری آیت قرآنی	سوم	۱۹۶
۵۷	طغری آیت قرآنی	سوم	۱۹۸
۵۸	طغری آیت قرآنی	سوم	۳۰۳
۵۹	نقش قرآن (بیرونی حاشیہ ۳۰ ستارے ۳۰ پارے اندرونی حاشیہ عظمت قرآن پر آیت، کوئی ساد، چاند کے باہر "فاتحہ" چاروں قل)	سوم	۳۰۸

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۶۰	صلی اللہ علیہ وسلم	سوم	۳۵۲
۶۱	طغریٰ آیت قرآنی	سوم	۳۵۴
۶۲	طغریٰ آیت الکرسی	سوم	۳۵۶
۶۳	خط گلزار میں طغریٰ ولقد علموا لمن اشترہٗ ومالہ	سوم	۳۹۹
۶۴	اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم	سوم	۴۵۲
۶۵	رباعی بلغ العلیٰ بکمالہٖ	سوم	۴۶۰
۶۶	طغریٰ آیت الکرسی	سوم	۴۶۲
۶۷	طغریٰ آیت الکرسی	سوم	۵۰۶
۶۸	خط دیوانی میں الم نشرح	سوم	۵۳۷
۶۹	طغریٰ آیت قرآنی	سوم	۵۷۱
۷۰	الحمدللہ بخط کوفی چہار ضربی	سوم	۶۲۴
۷۱	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۸
۷۲	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۱۲
۷۳	نقش قرآن بیرونی حاشیہ ۳۰ ستارے تمیں پارے	چہارم	۱۵۶
۷۴	لفظ اللہ بصورت ستارہ	چہارم	۱۸۳
۷۵	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۲۸۴
۷۶	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۳۱۲
۷۷	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۳۳۶
۷۸	طغریٰ لاحول ولاقوۃ الا باللہ	چہارم	۳۳۸
۷۹	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۳۵۱
۸۰	طغریٰ آیت قرآنی	چہارم	۳۶۶

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۸۱	خط دیوانی میں الم نشرح	چہارم	۳۷۷
۸۲	نقش قرآن، ۳۰ ستارے ۳۰ پارے	چہارم	۳۷۸
۸۳	طغرٰی آیت قرآنی	چہارم	۵۴۹
۸۴	طغرٰی آیت قرآنی	چہارم	۵۷۱
۸۵	طغرٰی آیت الکرسی	چہارم	۶۱۴
۸۶	طغرٰی بسم اللہ	چہارم	۶۲۷
۸۷	الحمدللہ خط کوفی چہار ضربی	چہارم	۶۴۰
۸۸	بسم اللہ الرحمن الرحیم	پنجم	۴
۸۹	صلی اللہ علیہ وسلم	پنجم	۶
۹۰	طغرٰی آیت قرآنی۔	پنجم	۲۵
۹۱	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۵۳
۹۲	طغرٰی الحمدللہ	پنجم	۹۷
۹۳	طغرٰی علمہ الانسان	پنجم	۱۴۲
۹۴	طغرٰی والشمس	پنجم	۱۷۶
۹۵	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۲۰۴
۹۶	طغرٰی جلالہ	پنجم	۲۹۰
۹۷	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۲۹۶
۹۸	اسم پاک اللہ بصورت ستارہ	پنجم	۳۳۴
۹۹	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۳۴۲
۱۰۰	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۳۸۶
۱۰۱	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۳۹۳

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱۰۲	لفظ علی بصورت مربع	پنجم	۴۹۰
۱۰۳	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۵۴۵
۱۰۴	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۵۴۹
۱۰۵	طغرٰی آیت قرآنی	پنجم	۵۶۶
۱۰۶	نقش قرآن ۳۰ ستارے ۳۰ پارے	پنجم	۵۸۰
۱۰۷	اسم الحمدللہ بصورت مربع	پنجم	۵۹۲
۱۰۸	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	ششم	۴
۱۰۹	رُباعی بلغ العلٰی بکمالہٖ	ششم	۶
۱۱۰	صلی اللہ علیہ وسلم	ششم	۱۲
۱۱۱	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۱۶
۱۱۲	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۲۰
۱۱۳	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۱۴۹
۱۱۴	طغرٰی اللہ محمد	ششم	۱۵۴
۱۱۵	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۲۷۷
۱۱۶	طغرٰی کلمہ طیبہ	ششم	۲۹۴
۱۱۷	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۳۲۸
۱۱۸	الحمدللہ بخط کوفی چہارضربی	ششم	۵۶۱
۱۱۹	لفظ علی بصورت مربع	ششم	۶۳۴
۱۲۰	السلام قبل الکلام	ششم	۶۴۱
۱۲۱	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۶۵۸
۱۲۲	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۶۸۰

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱۲۳	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۷۹۲
۱۲۴	صلی اللہ علیہ وسلم	ششم	۸۰۶
۱۲۵	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۸۱۳
۱۲۶	طغرٰی آیت قرآنی	ششم	۸۱۷
۱۲۷	الحمدللہ بخط کوفی چہارضربی	ششم	۸۶۴
۱۲۸	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	ہفتم	۴
۱۲۹	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۶
۱۳۰	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۴
۱۳۱	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۶
۱۳۲	طغرٰی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	ہفتم	۲۶
۱۳۳	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۳۲
۱۳۴	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۵۲
۱۳۵	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۶۸
۱۳۶	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۰۰
۱۳۷	لفظ اللہ بصورت ستارہ	ہفتم	۱۱۶
۱۳۸	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۱۸
۱۳۹	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۸۱
۱۴۰	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۱۸۲
۱۴۱	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۲۳۶
۱۴۲	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۲۴۸
۱۴۳	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۲۵۰

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱۴۴	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۲۷۵
۱۴۵	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۲۷۶
۱۴۶	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۴۳۴
۱۴۷	صلی اللہ علیہ وسلم	ہفتم	۴۴۰
۱۴۸	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۴۴۲
۱۴۹	طغرٰی الحمدللہ بخط کوفی چہار ضربی	ہفتم	۴۴۷
۱۵۰	طغرٰی آیت قرآنی	ہفتم	۴۵۰
۱۵۱	طغرٰی کلمہ طیبہ	ہفتم	۴۶۴
۱۵۲	مختلف طغرے	ہفتم	۴۶۷
۱۵۳	اسم اللہ بصورت ستارہ	ہفتم	۴۷۹
۱۵۴	طغرٰی آیت قرآنی بخط ثلث	ہفتم	۴۸۰
۱۵۵	طغرٰی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	ہفتم	۴۸۲
۱۵۶	طغرٰی سبحانہٗ و تعالیٰ	ہفتم	۴۹۶
۱۵۷	طغرٰی بسم اللہ	ہشتم	۴
۱۵۸	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۶
۱۵۹	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۱۰
۱۶۰	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۲۸
۱۶۱	الم نشرح بخط دیوانی	ہشتم	۱۴۶
۱۶۲	نصر من اللہ و فتح قریب	ہشتم	۱۶۸
۱۶۳	طغرٰی لاحول ولا	ہشتم	۱۷۴
۱۶۴	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۱۷۵

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱۶۵	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۲۰۰
۱۶۶	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۲۰۲
۱۶۷	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۲۴۲
۱۶۸	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۲۸۴
۱۶۹	طغرٰی نصر من اللہ و فتح قریب	ہشتم	۳۰۸
۱۷۰	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۳۳۰
۱۷۱	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۳۵۴
۱۷۲	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۳۵۶
۱۷۳	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۳۷۲
۱۷۴	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۳۸۴
۱۷۵	الم نشرح بخط دیوانی	ہشتم	۳۹۲
۱۷۶	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۱۹
۱۷۷	لفظ اللہ بصورت ستارہ	ہشتم	۴۲۰
۱۷۸	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۳۰
۱۷۹	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۴۲
۱۸۰	طغرٰی لاحول ولاقوۃ	ہشتم	۴۴۶
۱۸۱	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۴۸
۱۸۲	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۷۶
۱۸۳	طغرٰی آیت قرآنی بخط دیوانی الجلی	ہشتم	۴۹۱
۱۸۴	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۹۲
۱۸۵	طغرٰی آیت قرآنی	ہشتم	۴۹۴

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۱۸۶	الحمدللہ بخط کوفی چہار ضربی	ہشتم	۵۱۲
۱۸۷	طغرٰی بسم اللہ	نہم	۴
۱۸۸	طغرٰی بسم اللہ	نہم	۶
۱۸۹	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۴۵
۱۹۰	نقش قرآن ۳۰ ستارے ۳۰ سپارے	نہم	۴۹
۱۹۱	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۵۷
۱۹۲	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۶۴
۱۹۳	طغرٰی لاحول ولا	نہم	۷۸
۱۹۴	طغرٰی سورہ القارعہ	نہم	۱۷۲
۱۹۵	ولسوف یعطیک ربک فترضی	نہم	۱۷۴
۱۹۶	طغرٰی اللہ محمد	نہم	۱۹۲
۱۹۷	الحمدللہ بخط کوفی چہار ضربی	نہم	۲۰۶
۱۹۸	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۲۱۵
۱۹۹	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۲۱۶
۲۰۰	طغرٰی آیت قرآنی بصورت تتلی	نہم	۲۳۰
۲۰۱	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۲۳۲
۲۰۲	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۳۹۳
۲۰۳	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۴۱۸
۲۰۴	برزمینی کہ نشانِ کف پائے تو بود	نہم	۴۶۸
۲۰۵	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۴۶۹
۲۰۶	طغرٰی علمہ الانسان	نہم	۴۷۰

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۲۰۷	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۴۷۴
۲۰۸	طغرٰی آیت قرآنی	نہم	۵۷۳
۲۰۹	طغرٰی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر	نہم	۵۷۴
۲۱۰	طغرٰی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	دہم	۴
۲۱۱	طغرٰی آیت الکرسی	دہم	۶
۲۱۲	طغرٰی الزرق علی اللہ	دہم	۱۲
۲۱۳	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۱
۲۱۴	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۸
۲۱۵	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۳۴
۲۱۶	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۴۰
۲۱۷	طغرٰی اللہ نور السموٰات والارض	دہم	۴۸
۲۱۸	طغرٰی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم	دہم	۱۰۳
۲۱۹	نقش قرآن ۳۰ ستارے ۳۰ سپارے	دہم	۱۰۴
۲۲۰	طغرٰی بسم اللہ بصورت مربع	دہم	۱۱۲
۲۲۱	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۱۴
۲۲۲	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۲۴
۲۲۳	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۳۸
۲۲۴	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۷۰
۲۵	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۸۰
۲۲۶	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۱۸۹
[illegible]	طغرٰی کلمہ طیبہ	دہم	۱۹۰

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۲۲۸	طغرٰی شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود	دہم	۱۹۲
۲۲۹	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۲۷
۲۳۰	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۲۸
۲۳۱	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۳۵
۲۳۲	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۳۶
۲۳۳	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۶۰
۲۳۴	طغرٰی آیت قرآنی و حدیث پاک	دہم	۲۶۲
۲۳۵	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۲۶۶
۲۳۶	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۳۱۱
۲۳۷	طغرٰی آیت قرآنی خط دیوانی الجلی	دہم	۳۱۲
۲۳۸	طغرٰی آیت قرآنی	دہم	۳۱۸
۲۳۹	طغرٰی بسم اللہ	دہم	۳۲۴
۲۴۰	طغرٰی کل من علیہا فان	دہم	۳۲۸
۲۳۶	طغرٰی یکچند پی دانش و دفتر گشتیم	دہم	۳۷۶
۲۳۷	طغرٰی سورہ اخلاص مربع	دہم	۳۸۴
۲۳۸	طغرٰی الحمد للہ بخط کوفی چہار ضربی	دہم	۴۱۰
۲۳۹	طغرٰی نصر من اللہ و فتح قریب	دہم	۴۱۹
۲۴۰	طغرٰی کلمہ طیبہ بخط کوفی بنائی متوسط	دہم	۴۲۳
۲۴۱	طغرٰی رباعی از رخت مست بزم احباب ست	دہم	۴۳۲
۲۴۲	طغرٰی آئینِ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی	دہم	۴۴۸
۲۴۳	طغرٰی والشمس	دہم	۴۵۸

شمار	موئے قلم	جلد	صفحہ
۲۴۴	طغریٰ آیت قرآنی	دہم	۴۷۳
۲۴۵	طغریٰ آیت قرآنی	دہم	۴۷۴
۲۴۶	طغریٰ آیت قرآنی	دہم	۴۸۶
۲۴۷	السلام قبل الکلام	دہم	۴۹۰
۲۴۸	طغریٰ رباعی بلغ العلیٰ بکمالہٖ	دہم	۵۵۰
۲۴۹	طغریٰ آیت قرآنی	دہم	۵۵۲
۲۵۰	طغریٰ اسم پاک اللہ بصورت ستارہ	دہم	۵۵۳
۲۵۱	طغریٰ اسم محمد	دہم	۵۸۰
۲۵۲	طغریٰ نصر من اللہ و فتح قریب	دہم	۷۷۵
۲۵۳	طغریٰ اللہ محمد	دہم	۸۱۲
۲۵۴	طغریٰ لاحول و لا۔	دہم	۸۴۲
۲۵۵	طغریٰ الحمدللہ بخط کوفی چہار ضربی	دہم	۹۰۴
۲۵۶	طغریٰ نصر من اللہ و فتح قریب	دہم	۹۱۲